

# امیر معاویہ پر اعتراضات کے جوابات



تَحْصِیْنِ الطِّیْبِ

شمس المصنفین، فقیہ الوقت، فیض ملت، مفسر اعظم پاکستان  
حضرت علامہ الحاج الحافظ

مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی

قدس سرہ



## پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

اما بعد! فقیر اویسی غفرلہ نے ”الرہفایہ فی الناہیہ عن ذم امیر معاویہ“ تصنیف سے پہلے یہ رسالہ ”صرف العنان عن مطاعن معاویہ بن ابی سفیان“ مرتب کر لیا تھا۔ لیکن اس کی اشاعت نہ ہو سکی۔ اس سے قبل ”الرہفایہ“ تصنیف شائع ہو گئی۔

سوالات و جوابات اکثر ”الرہفایہ“ سے لئے گئے ہیں، معمولی سا اضافہ کر کے عزیزم حاجی محمد احمد صاحب قادری اویسی کو اشاعت کے لئے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فقیر اور ناشرین کے لئے توشہ راہ آخرت اور قارئین کے لئے مشعل راہ ہدایت بنائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

۲۵ ربیع الآخر ۱۴۲۳ھ

☆☆☆☆☆

## مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على ائمة الانبياء والمرسلين وعلى آله طيبين واصحابه  
الطاهرين وامهارة وازواجه وذرياته اجمعين

اما بعد! فقیر نے رسالہ ”تطهير الجنان عن مطاعن العمرين وعثمان بن عفان“  
اختصار کے ساتھ لکھا۔ اہل اسلام کے لئے مفید ثابت ہوا۔ ارادہ ہوا کہ مطاعن صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو تفصیل سے  
لکھوں۔ چونکہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) میں سے زیادہ مطعون سیدنا امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) ہیں اسی لئے سب سے پہلے ان پر  
مطاعن کے جوابات عرض کروں۔ اس مجموعہ میں وہ تمام مطاعن جو شیعہ اور بعض جاہل سنیوں سے حضرت امیر معاویہ  
(رضی اللہ عنہ) پر وارد ہوتے ہیں، جمع کر کے ان کے جوابات لکھ کر نام ”صرف العنان عن مطاعن معاویہ بن ابی سفیان“  
تجویز کیا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم الرؤف الرحیم الامین وعلی آله واصحابہ اجمعین

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

☆☆☆☆☆



## بسم اللہ الرحمن الرحیم

- (۱).....صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے فضائل و مناقب قرآن و احادیث میں صراحتاً وارد ہیں ان میں سیدنا امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) بھی شامل ہیں۔
- (۲).....لاکھوں کروڑوں اولیاء از آدم تا قیامت حضور سرور عالم (ﷺ) کے ایک صحابی کے مرتبہ سے کم ہیں۔
- (۳).....امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) حضور (ﷺ) کے عظیم القدر صحابی اور رشتہ میں سالے اور قریبی رشتہ دار ہیں بلکہ آپ نبی پاک (ﷺ) کے کاتب وحی ہیں۔
- (۴).....حضور نبی پاک (ﷺ) نے اپنے صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کے خلاف کرنے والے کو سخت وعیدیں سنائی ہیں۔
- (۵).....ہر حکومت کا قانون ہوتا ہے کہ عوام پر لازم ہے حکومت کے مخصوص لوگوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔
- (۶).....حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) خاندان نبوت کے خاص بلکہ اخص ہیں۔
- (۷).....ہر شخص کو اپنا دوست اور لائق رشتہ دار پیارا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے حضور (ﷺ) کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیارے نہیں تھے۔

## فضائل امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ)

وہ فضائل و کمالات جو قرآن مجید کی صریح نصوص اور احادیث مبارکہ میں صاف بیان ہوئے ہیں اور مجموعی طور فضائل صحابہ و اہلبیت اور حضور سرور عالم (ﷺ) کے رشتہ داروں کی بزرگی و شرافت میں امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) شامل ہیں۔ باوجود ایں ہمہ حضور نبی پاک (ﷺ) نے بعض نامور شخصیات کے فضائل خصوصیت سے بیان فرمائے ہیں۔ ان شخصیات میں سیدنا امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) بھی ہیں چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

تفصیلی فضائل کے لئے فقیر کی کتاب ”فضائل معاویہ“ کا مطالعہ کریں۔

(۱) عن عبد الرحمن بن ابی عمیرہ و کان من اصحاب رسول اللہ ﷺ عن النبی ﷺ انه قال لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا و اہدیہ۔ (هذا حدیث حسن غریب، رواہ الترمذی)

یعنی، عبد الرحمن بن ابی عمیرہ صحابی، نبی (ﷺ) سے راوی ہیں کہ سرکار نے (حضرت) معاویہ کے متعلق فرمایا ہے: اللہم اجعلہ النخ، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور ہدایت یافتہ فرما اور ہدایت پر گامزن رکھ۔



(۲) امام احمد کی روایت میں ہے ”اللهم علم معاوية الحساب والكتاب واحفظه من العذاب“ یعنی اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا عالم بنا اور اسے عذاب سے بچا۔

## فائدہ

چونکہ صحابی رسول کا گناہ و معصیت سے محفوظ رہنا اور خلاف مروت کام سے دور رہنا ایک مذہبی عقیدہ ہے اس لئے علماء محدثین نے بالاتفاق **الصحابۃ کلہم عدول صغارہم و کبارہم** فرمایا ہے، یعنی طبقات صحابہ میں ہر صحابی عادل اور ثقہ ہے۔ اسی لئے سند حدیث کی جرح اور تعدیل میں صحابہ مستثنیٰ ہیں، رجال سند کے بیان میں تابعی سے ابتدا ہوتی ہے۔ صحابہ اپنی مسلمہ عدالت و ثقاہت کی بناء پر نقد و جرح سے خارج ہیں۔ ناقدین حدیث کے سامنے ”**رجل من اصحاب رسول اللہ**“ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ ذکر اسماء کی ضرورت نہیں۔ بہر حال قرآن و حدیث نیز اقوال علماء کی روشنی میں یہ خوب واضح ہو گیا کہ ہر صحابہ کرام واجب التعظیم اور صحابہ کرام کی طرح حضرت معاویہ ؓ بھی واجب التعظیم ہیں ان کی شان میں گستاخی اور ناساز اور ناروا کلمات استعمال کرنا سخت درجہ گناہ ہے اور ایسا کہ بعض ائمہ کرام کے نزدیک اس کی توبہ اگرچہ آخرت کے لئے مفید ہے مگر دنیوی احکام جاری کرنے میں کچھ سودمند نہیں، ایسا شخص بہر حال واجب القتل ہے۔

(شرح الشفاء و مرقات، شرح مشکوٰۃ، للعلامة علی القاری علیہ رحمۃ الباری)

(۲) سیدنا امیر معاویہ ؓ ایک اسلامی امیر و بادشاہ ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہیں، جب کہ ارشاد الہی ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (پارہ ۵، سورۃ النساء، آیت ۵۹) یعنی، اے ایمان والو! حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔

(۳) حضرت امیر معاویہ ؓ کی دینی خدمات اور اپنے زمانہ حکومت میں دین محمدی ﷺ کی ترویج و اشاعت میں سرگرم رہنا آپ کی عظمت کو اور نمایاں کر رہی ہے۔ آپ کی ذات سے اسلامی حدود و مملکت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔

(۴) اہلبیت کرام کے ساتھ محبت اور ان کا اعزاز و اکرام آپ کے اخلاق حسنہ کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اگرچہ اموی اور ہاشمی گھرانے میں آبائی اور خاندانی شکر رنجی چلی آرہی تھی مگر آپ ہاشمی خاندان کے ہر فرد سے بڑی خنداں پیشانی سے پیش آتے تھے۔ بسا اوقات ہاشمی حضرات میں بعض آپ کو ناخوشگوار کلمات سے یاد کرتے تو آپ تواضع و خاکساری کے ساتھ مسکرا کر ٹال دیتے تھے، کبھی تحکمانہ انداز اور امیرانہ خطاب سے ہاشمی حضرات کو یاد نہ فرمایا۔



## ازالۂ وہم

بیعت و خلافت کے سلسلہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو ناخوشگوار حالات پیش آئے اور موقع بموقع طرفین میں تنازع وقوع میں آتے رہے جس کی بناء پر صفین و جمل جیسے حادثے رونما ہو گئے تو اس میں آپ پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں، نہ اس کے باعث آپ پر ملامت کرنا جائز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سب جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی خطاء اجتہادی پر محمول ہے اور خطاء اجتہادی پر مجتہد کی شرعاً گرفت نہیں ہوتی یہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہت مشہور و معروف قانون ہے۔

## عاشق رسول ﷺ

امیر معاویہ ؓ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو فخر موجودات سید عالم ﷺ کے تبرکات شریفہ میں چادر اقدس، ناخن شریف، قمیص مبارک، ازار شریف اور موئے مبارک حاصل تھے۔ اور آپ کی وصیت کے مطابق چادر مبارک، قمیص مبارک اور ازار شریف میں آپ کو کفن دیا گیا اور ناخن شریف اور موئے مبارک آپ کے اعضاء سجود پر رکھ دیئے گئے۔

## درس عبرت

اہل دل ہی سوچ کر جواب دیں کہ جس عاشق صادق کی موت کے وقت یہ تمنا ہے کہ ”قبر میں محبوب کے بال، ناخن ساتھ ہوں تو بیڑا پار ہے۔“ کیا ایسے عاشق کے لئے بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ محبوب کی آل و اعزہ و اقارب سے عداوت رکھ سکتا ہے۔

## تاریخی افسانے

بہت سے آزاد خیال قسم کے لوگ روافض کے دوش بدوش ہو کر سیدنا امیر معاویہ ؓ کی شان میں بڑی بیباکی کے ساتھ گستاخانہ جملے استعمال کرتے رہتے ہیں اور کچھ تاریخی کتابوں کے پڑھ سن لینے پر اپنے کو ایک تاریخ داں تصور کرتے ہوئے بیجا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے غیر مہذب اور ناشائستہ حالات کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ یہ تاریخی کتابیں محض افسانے ہیں تو حضور ﷺ کے فرمان ”**من اذاهم فقد اذانی الخ**“ پر عتاب حکم سے خوف کھائیں اس لئے کہ ناروا کلمات کے استعمال سے خود امیر معاویہ ؓ کی مقدس روح کو جتنا دکھ پہونچ سکتا ہے وہ تو ظاہر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ان کے سید و سرکار کائنات ﷺ کو سخت دکھ پہونچے گا جس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ نا عاقبت اندیشی سے ایمان خراب کرنا یہ کونسی دور اندیشی ہے۔ اگر واقعی تاریخ و سیر کا مطالعہ تھوڑی دیر کے لئے آپ کو خلجان میں ڈال دے تو صحیح رہنمائی محض تاریخ نبی سے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اسلام میں تاریخی کتابوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے دور میں اخبارات



کا حال ہے کہ جو کرسی ہے تو زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، کرسی گئی تو حال زبوں سے زبوں تر ہے۔

## فیصلہ

بزرگوں کے بارے میں ہمیشہ اپنی زبان پر قابو رکھنا اسلامی درس گاہ کی تعلیم ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ایک سخت ناپسندیدہ عمل ہے ”خطائے بزرگاں گرفتن خطاست“ یہ بڑے تجربہ کاروں کا مقولہ ہے۔

## انتخاب صدیق و فاروق (ؓ)

سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت فاروق اعظم (ؓ) کا عہد خلافت علیٰ منہاج النبوت ہونے کے باعث تاریخ انسانی کا مثالی دور ہے۔ اسلام بامِ غرور پر پہنچ چکا تھا سراج منیر پوری تابانی سے چمک رہا تھا۔ نور اسلام سے عالم منور و مستفید ہو رہا تھا۔ کفر کی دنیا تیرہ و تار تھی، اہل کفر و ضلالت دندنا رہے تھے، آپ کے صحابہ نے کفر کا زور توڑا۔

## پند و نصیحت از شاہ کونین

حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔

## فائدہ

علاوہ اس کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اس لئے حق نہیں کہ ان کو بُرا کہیں اور ایسا ہی حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا اور حضرت علی اسد اللہ الغالب کے درمیان تنازعہ ہوا اور حضرت خاتون جنت کی زبان سے ان کے حق میں ایسے الفاظ نکلے جو تحریر سے باہر ہیں۔ (کتاب شیعہ احتجاج طبری ص ۶۹، مطبوعہ: ایران و حق الیقین ص ۲۳۳)

اور ایسے ہی ائمہ اہلبیت کے درمیان وہ تنازعات ہوئے ہیں کہ قلم کو طاقت نہیں۔ تفصیل فقیر کی کتاب ”چشمہ نور افزاء“ میں ہے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلم ہے، تاریخ میں ہے، ”معاویہ بن سفیان اصحابی اسلم قبل الفتح و کتب الوحی و مات فی رجب سنة ستین و قدر قارب التمانین“ اسی تقریب التہذیب، ص ۲۵۷ مطبوعہ نولکشور، میں ہے کہ معاویہ بن سفیان صحابی ہیں، پہلے فتح مکہ کے اسلام لائے تھے اور کاتب وحی اور نبی اکرم ﷺ کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔

شیعہ نہ صرف امیر معاویہ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ (ؓ) کو بھی نہیں چھوڑتے، چنانچہ بی بی کا قول نقل کیا ہے کہ ”قالت امیر



**المؤمنين (عليہ السلام)** یا ابن ابی طالب اشملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين الخ اور حق الیقین کی یہ عبارت ہے۔ خطابہائے درشت باسید اوصا نمود کہ مانند جنین در رحم پرده نشین شدہ۔ وشل غائبان در خانہ گریختہ“ یعنی اے ابی طالب کے بیٹے بچہ شکم کی طرح چھپ کر بیٹھا ہے اور خانوں کی طرح گھر میں گھسا ہوا ہے الخ۔ (نعوذ باللہ)

اور اصول کافی، ص ۳۸۴ میں ہے **”قال انکم استدعون الی سبّی فسبّونی“** بیشک مجھے گالی دینے کی دعوت دیئے جاؤ گے تو مجھے گالی دے دینا۔ حالانکہ ہم اہلسنت اس کے روادار نہیں بلکہ معمولی تنقیص کرنے والے کو بے ایمان کہتے ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں ہے **”من سب علیا فقد سبّی“** (رواہ احمد) حضور ﷺ نے فرمایا **”جو علی کو گالی دے اس نے مجھے گالی دی“** اور حضور ﷺ کو گالی دینے والا واجب القتل ہے۔

## خاندانی رشتہ

اسلامی قواعد و ضوابط اور تاریخی تحقیق بلکہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی حضرت علی المرتضیٰ و حضور سرور عالم ﷺ کے قریبی نسب ہونے کی وجہ سے اہلبیت میں داخل ہیں۔ شیعہ کی مستند روایات سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر (ع) کی روایت ہے

**”قال انا و آل ابی سفیان اہلبیتن“** (معانی الاخبار، ص ۸۹، مطبوعہ: ایران)

یعنی، ہم اور ابوسفیان والے ہم دونوں اہلبیت ہیں۔

سب کو معلوم ہے کہ سیدنا امیر معاویہ ﷺ خاندان قریش سے ہیں اور قریش میں حضور ﷺ اور علی المرتضیٰ ﷺ قریب تر ہیں اس لئے حضرت عبد مناف کے دو صاحبزادے تھے حضرت ہاشم و امیہ، ہاشم کی اولاد میں سے حضور ﷺ اور علی ﷺ اور دوسرے کی اولاد سے ابوسفیان و امیر معاویہ۔ (رضی اللہ عنہم اجمعین)

## فائدہ

یاد رہے کہ یہ سب کی سب دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام برائے فرزند اسمعیل علیہ السلام و مقامات حجر اسود و کعبہ و چاہ زمزم و دارالامان کے پودے تھے۔ اور خاص کر حضرت امیر معاویہ ﷺ بڑے متقی اور صاحب علم اور تمام اولیاء سے فضل و اعلیٰ تھے۔ چنانچہ کتاب **”شیعہ آئینہ حق“** مطبوعہ یوسفی دہلی، ص ۹، ۱۰ میں امام حسن علیہ السلام (واجب الاطاعت جن کا قول اور فعل تمام شیعوں کے لئے حق اور حجت ہے) فرماتے ہیں واللہ معاویہ (ع) میرے لئے بہتر ہے ان لوگوں سے جو گمان کر رہے



ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور کتاب ”علل الشرائع“ مطبوعہ ایران، ص ۸۳ میں ہے کہ **بایع الحسن ابن علی صلوٰۃ اللہ علیہ** **معاویہ** بیعت کی حضرت امام حسن بن علی ؑ نے حضرت امیر معاویہ ؓ کی اور ایسا ہی علامہ مجلسی شیعہ نے ”جلاء العیون“ جلد اول میں لکھا۔

## خلاصہ مقدمہ

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ؓ شیعانِ علی ؑ کے نزدیک بڑے متقی اور ایماندار اور صاحبِ عدل اور ماہرِ قرآن مجید تھے۔ ورنہ امام و رہنما و مقتدا امام حسن ؓ ان کو نہ بناتے اور نہ ہی ان کی بیعت کرتے۔ بلکہ اپنے بھائی حضرت امام حسین ؓ کی طرح لڑ کر شہید ہو جاتے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امیر معاویہ ؓ کو ایمان و اسلام میں اپنے مساوی نہ سمجھتے۔ چنانچہ فرمانِ عالی شان کتاب ”نہج البلاغت“ مطبوعہ مصر، ج ۲، ص ۱۵۱ میں بایں طور ناطق ہے ”ومن کتاب له علیؑ کتبہ الی اهل الامصار به ماجری بینہ و بین اهل الصفین و کان بداء امرنا التقینا والقوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ونبینا واحد دعوتنا فی الاسلام واحدة ولا نستزید ہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزید ونا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن براء۔“

## فائدہ

اس کلامِ پاک امام المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے صاف صاف فیصلہ ہوا کہ اسلام و ایمان و تصدیقِ رسالت و توحید میں حضرت امیر معاویہ ؓ حضرت اسد اللہ الغالب کے مساوی تھے۔ ہاں فضل و قدر اور مرتبہ و منزلت میں حضرت علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ ؓ (ؓ) سے افضل و اعلیٰ ہیں اور جنگوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ ؓ کا اجتہاد منیٰ برحق تھا اور حضرت امیر معاویہ ؓ خطائے اجتہادی میں بھی ماجور و مشاب تھے۔

## پرائیویٹ سیکرٹری اور کاتب وحی

حضور سرورِ عالم ﷺ کے متعدد کاتبین تھے جن میں عشرہ مبشرہ کے چند برگزیدہ مثلاً حضرت سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم اجمعین) تھے۔ ان میں خصوصیت سے حضرت امیر معاویہ ؓ کو تمام خط و کتابت کے علاوہ کتابتِ وحی کا بھی شرف حاصل تھا۔ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ”وکان معاویہ وزیداً لزمہم لذلك و اخصہم بہ“ اور معاویہ اور زید رضی اللہ عنہما باقی کاتبانِ وحی کی بنسبت کتابتِ وحی کے کام سے زیادہ التزام و اختصاص رکھتے تھے۔ (الناہیہ، ص ۱۵)



قد کان کاتب وحیہ وامینہ

سند الامانة حاصل لمعاویة

حضرت معاویہ (ؓ) کاتب وحی تھے جس کی وجہ سے آپ کو امین ہونے کی سند حاصل ہے کہ وحی جیسا مہتمم بالشان کام آپ کے سپرد تھا۔ مزید تفصیل فقیر کی تصنیف ”فضائل معاویہ“ میں پڑھئے۔

## حضرت معاویہ ؓ عظیم امین احادیث تھے

حضرت معاویہ ؓ کا شمار علماء صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ ؓ نے رسول اللہ ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور اپنی بہن حضرت ام حبیبہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور ان سے حضرت ابوذر غفاری، حضرت ابن عباس، حضرت ابوسعید، حضرت جریر بن جلی اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت نے اور تابعین میں سے جبیر، ابوذر لیس خولانی، سعید ابن المسیب، خالد بن معدان، ابوصالح سمان، سعید، ہمام بن منبہ اور کثیر مخلوق نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں آٹھ اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت معاویہ ؓ سے حدیثیں روایت کی ہیں، حالانکہ ان دونوں کی شرطیں بہت سخت اور کڑی ہیں اور وہ غیر ثقہ، غیر ضابطہ اور کاذب راوی سے کوئی شے روایت نہیں کرتے ہیں۔ (الناہیۃ، ص ۱۷)

## حضرت معاویہ ؓ مجتہد تھے

محدث جلیل امام محمد بن اسماعیل بخاری ابن ابی ملیکہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے عرض کیا۔ کیا آپ کو امیر المؤمنین معاویہ ؓ پر اس وجہ سے کوئی اعتراض ہے کہ وہ وتر کی صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا ”**اصاب انہ فقیہ**“ انہوں نے درست کیا ہے کیونکہ وہ فقیہ (مجتہد) ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا **دعہ فانہ صحب رسول اللہ ﷺ**، انہیں چھوڑو کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہ چکے ہیں۔

اس حدیث کے ضمن میں صاحب نبراس فرماتے ہیں، ”بلاشبہ فقہاء نے آپ کے اجتہاد پر اعتماد کیا ہے۔ لہذا جب وہ صحابہ کے اجتہاد کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں حضرت امیر معاویہ ؓ کے اجتہاد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔“ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ ”**ومن اعتقاد اهل السنة والجماعة ان معاویہ لم یکن فی ایام علی خلیفۃ وانما کان من الملوك وغایۃ اجتہادہ**



ایضاً اِنَّهٗ كَانَ لَهُ اَجْرٌ وَّاحِدٌ عَلٰی اجْتِهَادِهِ۔“ (الصواعق المحرقة، ص ۲۱۷)

**ترجمہ** اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ امیر معاویہ حضرت علی (ؓ) کے زمانہ خلافت میں ایک بادشاہ تھے اور اپنے موقف پر اجتہاد کیا، اگرچہ خطا ہوئی لیکن ان کو اسی اجتہاد سے ایک اجر ملے گا۔

## ہر صحابی بالخصوص امیر معاویہ کی تنقیص ممنوع ہے

اسلاف صحابہ کرام کی تنقیص سے سخت ناراض ہوتے، چنانچہ کسی نے حضرت معانی بن عمران سے عرض کیا۔ عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ میں کون افضل ہے؟ آپ نے غصہ سے فرمایا ”لایقاس احد باصحاب النبی ﷺ معاویہ صاحبہ وصہرہ وکاتبہ وامینہ علی وحی اللہ عزوجل“ کسی شخص کو نبی ﷺ کے صحابہ پر قیاس نہ کیا جائے۔ معاویہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی، سُسرالی رشتہ والے، کاتب اور امین وحی تھے۔ (شفاء شریف، ج ۲، ص ۴۳)

## حضرت معاویہ ؓ رسول اللہ ﷺ کے سالہ ہیں

حضرت معاویہ ؓ کی بہن اُم حبیبہ بنت ابی سفیان رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ رسول اللہ ﷺ کے سالہ ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے سُسرالی رشتہ داروں کے حق میں فرمایا بلاشبہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو چنا پھر انہیں میرے ساتھی، میرے سُسرالی رشتہ والے اور میرے مددگار بنایا اور عنقریب ان کے بعد ایک قوم آئے گی جو انہیں گالیاں دے گی۔ تم اُن (گستاخوں) کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ ان کے ساتھ مل کر کھاؤ۔ نہ ان سے رشتہ داری کرو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ان کے ہمراہ نماز پڑھو۔ (نزہۃ الناظرین، ص ۳۶)

## حضرت معاویہ ؓ کا عشق رسول ﷺ

قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ ؓ نے سنا کہ قابس بن ربیعہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے گھر کے دروازہ سے داخل ہوئے تو وہ ان کی تعظیم کے لئے چار پائی سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے ملاقات کی اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اور ان کے لئے مرغاب نامی علاقہ بطور جاگیر کے وقف کر دیا اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔ (شفاء شریف، ج ۲، ص ۴۰)

## حضرت معاویہ ؓ متبع سنت تھے

امام بغوی ”شرح السنہ“ میں ابو مجلز سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ؓ نکلے درآں حالیکہ حضرت عبداللہ بن عامر اور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہما) بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ابن عامر تو کھڑے ہو گئے



مگر ابن زبیر بیٹھے رہے، یہ دیکھ کر حضرت معاویہ ؓ نے فرمایا بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے آگے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ (الناہیہ، ص ۲۳)

مقام غور ہے کہ حضرت معاویہ ؓ نے اس حدیث کی بناء پر اپنے لئے قیام تعظیمی کو پسند نہیں فرمایا یہ سنت کی پیروی اور حدیث پر عمل کی وجہ سے تھا۔ سو اس سے آپ کے قبیح سنت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔ ”پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا یزید نامی شخص ہوگا۔“ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ ؓ عامل بالسنۃ تھے۔ (الناہیہ، ص ۳۰)

## حضرت معاویہ ؓ صاحب عدالت صحابی تھے

امام قسطلانی شرح بخاری شریف میں لکھتے ہیں کہ معاویہ ؓ بہت سی خوبیوں کے حامل تھے اور امام نووی شرح مسلم شریف میں فرماتے ہیں، **هو من عدول الفضلاء والصحابۃ الخیار** حضرت معاویہ ؓ چوٹی کے صاحب عدالت فضلاء اور بہترین صحابہ میں سے تھے۔ اور صاحب نبراس لکھتے ہیں **”ویکتب المحدثون بعد اسمہؓ“** **کسائر الصحابہ بلا فرق** اور محدثین معاویہ ؓ کے نام کے بعد سب صحابہ کے ناموں کی طرح کوئی فرق کئے بغیر لکھتے ہیں۔ (الناہیہ، ص ۱۷)

## حضرت معاویہ ؓ بخشے گئے

محدث ابن عساکر ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس (ؓ) سے روایت بیان کرے ہیں **”كنت عند النبی ﷺ وعنده ابوبکر وعمر وعثمان اذا قبل علی فقال النبی ﷺ لمعاویۃ اتحب علیاً قال نعم قال انها ستكون بینکم ہنیہة قال معاویۃ فما بعد ذلك یارسول اللہ قال عفو اللہ ورضوانہ قال رضنیا بقضاء اللہ“** یعنی، میں ابوبکر، عمر اور عثمان (رضی اللہ عنہم) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک حضرت علی ؓ تشریف لائے، تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویہ ؓ (ؓ) سے فرمایا: کیا تم (حضرت) علی (ؓ) سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے درمیان لڑائی ہوگی۔ حضرت معاویہ ؓ نے عرض کی پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عفو اور بخشش و خوشنودی۔ امیر معاویہ ؓ (ؓ) نے کہا ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔

## بادشاہی کی نوید نبوی ﷺ

حدیث میں ہے، کعب الاحبار نے معاویہ ؓ (ؓ) کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ اس اُمت کا کوئی شخص



اتنے بڑے ملک کا مالک نہیں ہوگا جتنے بڑے ملک کے مالک معاویہ ہوں گے۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۴۹)

## عقیدۂ معاویہ

خود حضرت معاویہ ؓ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے معاویہ جب آپ بادشاہ بنیں گے تو لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس وقت سے مجھے بادشاہی ملنے کی امید رہی۔

(تاریخ الخلفاء، ص ۱۴۹، مکتوبات امام ربانی، ج ۲، ص ۴۶)

## امیر معاویہ ؓ کی سلطنت دراصل نبوی سلطنت ہے

امیر معاویہ ؓ اول ملک اسلام ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں ارشاد ہے کہ **مولدہ المکة ومہاجرہ طیبہ وملکہ بالشام نبی آخر الزمان ﷺ** یعنی مکہ میں پیدا ہوں گے مدینہ کو ہجرت فرمائیں گے اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔ سو امیر معاویہ ؓ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی حضور ﷺ کی۔

## صلح صفائی از امام حسن ؓ

سیدنا امام حسن مجتبیٰ ؓ نے ایک فوج جزار جان نثار کے ساتھ عین میدان جنگ میں بالقصد وبال اختیار ہتھیار رکھ دیئے اور خلافت امیر معاویہ ؓ کے سپرد کردی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور اس صلح کو حضور اقدس ﷺ نے پسند فرمایا تھا اور اس کی بشارت دی تھی کہ امام حسن (ؓ) کی نسبت فرمایا تھا کہ **”ان ابنی هذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فتنین عظیمین من المسلمین“** میرا بیٹا سید ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ (ﷻ) اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں صلح کرادے گا۔ سو امیر معاویہ ؓ پر (معاذ اللہ) فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقۃً حضرت امام حسن مجتبیٰ ؓ، بلکہ حضور سید عالم ﷺ، بلکہ اللہ (ﷻ) پر طعن کرنے والا ہے۔“ (بہار شریعت، ج اول، ص ۷۵)

## معاویہ ؓ کامیاب حکمران تھے

حضرت معاویہ ؓ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے چالیس سال کی طویل مدت تک صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ عنہم) کے دورِ سعید میں کامیابی سے حکومت کی ہے۔ انہیں حضرت فاروق اعظم (ؓ) نے شام کا والی بنایا۔ حالانکہ حضرت عمر (ؓ) والیوں کی درستی اور نادرستی میں بہت کوشش فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان ؓ نے ان کی حکومت کو برقرار رکھا۔ (الناہیہ، ص ۲۶)

## معاویہ ؓ عادل حکمران تھے



حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ”کیف یکون جائزاً وقد صح اندھ“ کان اماماً عادلاً فی حقوق اللہ سبحانہ وفی حقوق المسلمین کما فی الصواعق“ یعنی، حضرت معاویہ ؓ فاسق کیسے ہوں گے جب کہ صحت سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق میں عادل تھے۔ جیسا کہ امام ابن حجر نے کتاب ”صواعقِ محرقہ“ میں ذکر فرمایا ہے۔ (مکتوبات امام ربانی، جلد اول، ص ۴۱۵)

## آخری نصیحت

اگر امیر معاویہ ؓ کی کوئی فضیلت کو کسی کا دل نہیں مانتا تو بھی ان کی مذمت کرنا نامناسب ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) سے مرفوعاً مروی ہے کہ، حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو اس لئے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ان کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ (رواہ البخاری)

## انتباہ

حضور سرور عالم ﷺ کے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی تعداد حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعداد کے مطابق تھی اور جن کے متعلق خصوصی طور فضائل کی احادیث وارد ہوئی ہیں وہ چند گنتی کے ہیں اور ان حضرات کے فضائل کے لئے یہ بات کچھ کم نہیں ہے کہ انہیں حضور سرور عالم ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی اور باقی فضائل و کمالات کا دار و مدار اسی فضیلت پر ہے جیسا کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر کسی صحابی کے متعلق فضائل کی احادیث نہ ہوں یا کم ہوں تو بھی اس کی شان میں کمی نہیں آتی۔

حضرت امیر معاویہ ؓ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے فضائل بھی بتائے اور انہیں اپنی مستجاب دعاؤں سے بھی نوازا۔ چند دعائیں مع تشریح عرض کرتا ہوں۔

## امیر معاویہ ؓ کو رسول اللہ ﷺ کی دعائیں ہی دعائیں

(۱)..... نبی پاک ﷺ نے امیر معاویہ ؓ کے متعلق یوں دعا فرمائی:

اللهم علم معاویة الكتاب والحساب وقه العذاب یعنی، اے اللہ تعالیٰ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے دائمی عذاب سے بچا۔ (رواہ الامام احمد)

## شرح حدیث

امام احمد کی مسند احادیث کا مجموعہ ہے اور مستند کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امام احمد کی مسند



بڑی معتمد علیہ کتاب ہے اور اس کی جملہ مرویات قابل قبول ہیں اور جو ضعیف ہیں وہ بھی حسن کے قریب ہیں۔ امام احمد کا قول ہے کہ اگر مسلمان کسی مسئلہ میں اختلاف کریں تو چاہئے کہ وہ کتاب ہذا کی طرف رجوع کریں اگر اس میں وہ حدیث مل جائے تو سمجھو کہ وہ حدیث حسن ہے ورنہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ امام ابن الجوزی نے اپنی عادت تعصب کے باعث اس کتاب کی بعض روایات پر ضعیف ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یہ ان کی زیادتی ہے اور سراسر خطا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شیخ امام احمد حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مسند امام میں کوئی حدیث موضوع نہیں اور سنن اربعہ میں سب سے یہی احسن ہے۔

(۲)..... حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ صحابی مدنی ؓ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ؓ کے لئے یوں دعا فرمائی **اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به الناس** یعنی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ فرما اسی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔

## شرح حدیث

امام ترمذی کی یہ بہت بڑی بلند قدر کتاب ہے یہاں تک کہ شیخ الاسلام ہروی نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ کتاب صحیحین سے بھی زیادہ نافع ہے اس لئے کہ اس میں مختلف مذاہب کو بھی بیان فرمایا گیا ہے اور ان کے استدلال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے مگر صحیحین میں یہ بات نہیں ہے بلکہ امام حاکم نے حکم لگایا ہے کہ ترمذی شریف کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ خود امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو علمائے حجاز و عراق اور خراسان کی خدمت میں پیش کیا ہے اور جس گھر میں یہ کتاب ہوگی گویا وہاں حضور سرور عالم ﷺ سے گفتگو فرما رہا ہے۔

(۳)..... ابن ابی ملیکہ علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ؓ سے عرض کیا گیا کہ آپ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ؓ کے متعلق کیا فرماتے ہیں جب کہ وہ صرف ایک وتر پڑھتے ہیں حالانکہ وتر تو تین رکعت ہیں۔ حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ وہ حق پر ہیں کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ یعنی، وہ اپنے اجتہاد میں حق پر ہیں ورنہ حق تو وہی بات ہے کہ وتر تین رکعت ہیں۔ (رواہ البخاری)

## شرح الحدیث

شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ حضرت امیر معاویہ ؓ مجتہد ہیں وہ اپنے اجتہاد کے طور و تر ایک رکعت کے قائل ہیں۔ حضرت امام بخاری کی ایک اور روایت جو کہ ابن ملیکہ سے مروی ہے میں ہے کہ فرمایا حضرت امیر معاویہ ؓ



نے عشاء کی نماز کے بعد وتر صرف ایک رکعت پڑھی۔ ان کے پاس حضرت ابن عباس ؓ کا غلام موجود تھا اس نے یہ نئی بات دیکھ کر حضرت ابن عباس ؓ کی خدمت میں پیش ہو کر شکایت کی تو حضرت ابن عباس ؓ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑے اس لئے کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کے صحابی صحبت یافتہ ہیں۔

## فائدہ

یاد رہے کہ حضرت ابن عباس ؓ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) میں سے فاضل ترین مانے جاتے تھے انہیں بحر ذکار کہا جاتا ہے۔ صرف ان کے علوم بے پایاں کی وجہ سے اور انہیں خیر امت و ترجمان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور سرور عالم ﷺ نے ان کے لئے علم و حکمت اور تفسیر القرآن بالتاویل کی دُعا فرمائی تھی جو قبول ہوئی۔ حضرت علی ؓ کے خواص سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت علی ؓ کے دشمنوں کے لئے آپ سخت گیر تھے بلکہ انہیں حضرت علی ؓ نے اپنے دشمنوں کی افہام و تفہیم کے لئے بھیجا، حر و یہ گاؤں والوں کو ایسے دندان شکن جوابات دیئے کہ انہیں سوائے لا جواب ہونے کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا۔

## غور کیجئے

ایسے کامل فاضل صحابی اور حضرت علی ؓ کے مخصوص ساتھی اور ان کے معتمد علیہ حضرت امیر معاویہ ؓ کے متعلق حضرت نے یوں فرمایا کہ مجتہد ہیں بلکہ وہ اپنے غلام کو تنبیہ کرنے لگے کہ تو نے حضرت امیر معاویہ ؓ کی غلطی کیوں پکڑی۔ اور دلیل یہی دی کہ وہ صحابی ہیں۔

## فائدہ

حضرت شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ ؓ کی فضیلت میں بہت بڑے عالم صحابی کا کہنا کہ وہ مجتہد ہیں قابلِ قدر ہے۔

(۴)..... حضرت امیر معاویہ ؓ حضور نبی کریم ﷺ کے کاتب تھے۔

## فائدہ

امام مفتی الحرمین احمد بن عبد اللہ بن محمد طبری علیہ الرحمہ ”خلاصۃ السیر“ میں لکھتے ہیں کہ حضور سرور عالم ﷺ کے تیرہ کاتب تھے، خلفاء اربعہ اور عامر بن فہیرہ و عبد اللہ بن ارقم و ابی بن کعب و سعد بن قیس بن شماس و خالد بن سعید بن العاص، و حنظلہ



ابن الربیع الاسلمی وزید بن ثلث و معاویہ بن ابی سفیان و شرجیل بن حسنہ (رضی اللہ عنہم)۔

## فائدہ

ان سب میں سے حضرت امیر معاویہ ؓ کو کتابت وحی کے لئے خاص کیا گیا تھا، یعنی باقیوں کی بہ نسبت یہ دونوں کل وقتی کاتب تھے۔

(۵)..... حضرت ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ ؓ (انہوں نے فرمایا کہ ”غبار دخل فی الف فرس معاویہ حین فی رکاب رسول اللہ ﷺ افضل من کذا من عمر بن عبدالعزیز“۔

## ترجمہ

وہ گرد و غبار جو حضرت امیر معاویہ ؓ کے گھوڑے کی ناک میں پڑ گئی جب کہ وہ حضور سرور عالم ﷺ کی رفاقت میں غزوات میں شامل ہوئے وہی گرد و غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔

## فائدہ

غور کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ ؓ کی کتنی بڑی منقبت ہے لیکن یہ بہت بڑی منقبت کی قدر و منزلت اسے معلوم ہوگی جو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کے فضائل جانتا ہوگا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ان حضرات کے فضائل و کمالات لا تعداد ہیں جنہیں محدثین کی توارخ کی کتب میں بسط و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بالخصوص حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ تو علم الہدیٰ کے نام سے مشہور ہیں اور انہیں اہلسنت نے پانچواں خلیفہ راشد مانا ہے اور محدثین فقہا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ ان کے قول کو حجت مانتے ہیں اور ان کی عظمت کے قائل ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہی پہلے وہ حضرت ہیں جنہوں نے حدیث پاک جمع کرنے کا حکم دیا اس جیسے بزرگ سے بھی حضرت امیر معاویہ ؓ کو اعلیٰ و افضل جانتے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی شخص حضرت امیر معاویہ ؓ کے بغض و عداوت میں مبتلا ہے تو وہ معذور ہے۔

(۶)..... حضرت امام بخاری و حضرت امام مسلم رحمہم اللہ بھی حضرت امیر معاویہ ؓ سے روایات کرتے ہیں حدیث کے شرائط میں یہ نہایت ضروری ہے کہ ثقہ و ضابط و صدوق (بہت بڑے سچے) سے حدیث روایت کریں۔

(۷)..... صحابہ کرام اور محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ ؓ کی تعریف کرتے رہے حالانکہ وہ حضرت علی کرم



اللہ وجہ کی شان سے بہت زیادہ واقف تھے اور وہ ان کی آپس کی جنگوں کے متعلق بھی بخوبی واقف تھے پھر صحابہ کرام اور محدثین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔

(۸)..... حضرت امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ معاویہ ذوالمناقب الحبہ، حضرت امیر معاویہ ؓ کے مناقب جلیلہ ان گنت ہیں۔ شرح مسلم میں حضرت امیر معاویہ ؓ کے مناقب میں لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ ترین نیک بخت اور برگزیدہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ امیر معاویہ باحوصلہ اور کریم ذی عقل اور سرداری میں ذی ہیبت اور صاحب رائی ثاقب تھے گویا ان کی پیدائش بھی ملک رانی کے لئے تھی۔ علاوہ ازیں محدثین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ آپ کے نام کے ساتھ ؓ لکھتے ہیں جیسے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں انہوں نے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا کہ حضرت امیر معاویہ ؓ صحابہ کرام میں داخل نہیں ہیں ابن عباس ؓ کا قول بروایت بخاری حضرت امیر معاویہ ؓ کی فضیلت میں ابھی گزرا ہے۔ حضرت امام جزری کی کتاب نہایہ میں ہے، حضرت ابن عمر ؓ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم ؐ کے بعد حضرت امیر معاویہ ؓ جیسا کوئی اور سپاہی نہیں دیکھا۔ پھر سوال ہوا کہ آپ کے والد گرامی حضرت عمر ؓ کی تو بات ہی کیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ ؓ سے نہ صرف بہتر سپاہی تھے بلکہ جملہ امور سپاہی میں حضرت امیر معاویہ ؓ کے استاد بھی تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہ صرف امور سیاست میں بلکہ سخاوت اور راہِ خدا میں مال و دولت لٹانے میں بلکہ جملہ حکمتوں میں حضرت امیر معاویہ ؓ حضرت عمر ؓ کے مقلد تھے۔

(۹)..... قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی نے حضرت معافی بن عمران سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، حضرت امیر معاویہ ؓ سے افضل ہیں۔ حضرت معافی بن عمران یہ سن کر اس شخص سے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ حضور نبی کریم ؐ کے کسی صحابی کا کسی دوسرے صحابی پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت امیر معاویہ ؓ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ وہ تو حضور پاک ؐ کے سالہ اور کاتب اور آپ کی وحی کے امین بھی تھے۔

ان کے علاوہ دیگر متعدد روایات ہیں جنہیں فقیر نے ”المحایۃ للامیر معاویہ“ (تصنیف) میں درج کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ؓ کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صحابی رسول ؐ ہیں۔ یہ وہ عہدہ و مرتبہ ہے جہاں جملہ اولیائے ملت اور غوث پیروں کے پیر و سنگیروں کے دستگیر بلکہ جملہ سلاسل اربعہ (قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ) کے سر تاج بھی نیاز مندی کا دم بھرتے ہیں۔ تاریخی افسانوں سے ان کی ذات پر حملہ کرنے والے یہ ایسے ہے جیسے کوئی غصہ میں آکر سورج کو تھو کے اور چونکہ اس فعل سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ تھوکنے والے کا اپنا نقصان ہے۔ ایسے ہی سیدنا حضرت امیر معاویہ ؓ



ﷺ کو گالی دینے والے یا کم از کم ان سے نفرت کرنے یا غلط عقیدہ رکھنے والے کا حال ہے۔

## نہ صرف آج

حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) کی دشمنی اور بغض و عداوت نہ صرف آج کے دور میں ہے سابق ادوار میں ایک ایسا وقت بھی گذرا ہے جس میں آپ کو تبراکرنا حکومت کی طرف سے ضروری تھا جو نہ کرتا اس کا سرتن سے جدا کیا جاتا۔ ایک یادگار مضمون ملاحظہ ہو۔

## دور معتضد باللہ عباسی

یہ ۲۸۴ھ کی بات ہے کہ ایک عباسی خلیفہ معتضد باللہ احمد نے جس کا رجحان شیعیت کی طرف تھا۔ ایک حکم نامہ جاری کیا کہ امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) پر برسرِ منبر سب و شتم کیا جائے۔ یہ حکم نامہ سب سے پہلے اس کے ایک وزیر عبید اللہ کے ہاتھ لگا، اس نے پڑھا تو کانپ گیا۔ حکم نامہ ہاتھ میں پکڑے خلیفہ کی خدمت میں بازیابی کی اجازت کا طلب گار ہوا۔ خلیفہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔

پوچھا کیا بات ہے؟ میں تجھ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند درباری خلیفہ بغداد کے پاس بیٹھے تھے۔

اس نے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا، ہاں کہیے عبید اللہ کیا بات ہے۔

عبید اللہ نے سر جھکا دیا۔ حضور جان کی امان چاہتا ہوں۔

ہاں۔ ہم نے آپ کو جان کی امان دی۔ کہیے کیا کہنا چاہتے ہو۔

عبید اللہ نے خلیفہ کا فرمان (حکم نامہ) خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عرض کیا حضور! اس حکم نامہ کو نافذ کرنے سے پہلے نظر ثانی فرمائیں۔ یہ حکم نامہ نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ مسلمانان بغداد و مضافات کے جذبات کو برا بیچتے کر دے گا، عوام میں شورش پیدا کر دے گا۔ پھر اس شورش پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اور کیا خبر کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے ہی خون سے آلودہ ہو جائیں۔

مگر معتضد باللہ احمد نہیں مانا۔ اس نے تبراکرنا کرنے کے احکام جاری کر دیئے۔ بلکہ اس بات کا بھی اضافہ کر دیا کہ جو شخص امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) پر تبرابازی میں شرکت نہ کرے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔

ان احکام پر سب سے پہلے مصر والوں نے عمل کر کے دکھایا۔ لیکن جس دن تبرابازی کا جلوس نکلا اسی دن مصر کی فضا میں ایک عجیب گہرے رنگ کی سرخی ظاہر ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے مصر کی فضا کو محیط ہو گئی، سرخی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ چہرے



اور دیواریں بھی سرخ نظر آتی تھیں۔ یہ سرنخی عصر کے وقت نمودار ہوتی اور تمام رات رہتی تھی۔ ہوا چلتی تو ڈراؤنی قسم کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ لوگوں نے اس پر ہیبت منظر کو دیکھا تو سہم گئے انہیں قیامت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ لوگ مسجدوں میں اذانیں دینے لگے، خضوع و خشوع سے دعائیں مانگنے لگے، اکثر لوگوں کا گمان یہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ ؓ پر تبر ابازی خدا کو ناپسند ہے۔ لہذا جو لوگ اس فعل میں شریک ہوں گے ان کے گھر دوزخ میں بنیں گے۔ وہ تائب ہوئے اور کہنے لگے اگر ہمارے سر کٹتے ہیں تو کٹ جائیں مگر ہم حضرت امیر معاویہ ؓ پر تبر انہیں کریں گے۔

ایسا ہی منظر بصرہ والوں کو بھی دیکھنا پڑا۔ وہاں ایک عجیب و غریب قسم کی آندھی آتی جو پہلے زرد رنگ کی تھی پھر سبز رنگ کی ہو گئی اور ازاں بعد سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ اس آندھی نے بصرہ کے تمام مضافات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر سیاہ و سفید پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ سینکڑوں درخت اکھڑا کھڑ کر زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور پتھروں کی بارش سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔

خلیفہ معتضد باللہ احمد کو جب ان واقعات کی خبریں ملیں تو اس نے تبر ابازی کے احکام واپس لے لئے۔ اس تبر ابازی پر جہاں آسمان نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا وہاں علمائے اسلام اور صوفیاء نے بھی اپنے حلقوں میں خلیفہ کے اس حکم نامہ کو موضوع تنقید بنائے رکھا۔ ان علماء میں ابن المواز مالکی، ابن الدنیا، قاضی اسماعیل، حارث بن ابی اسامہ اور قاضی محمد یوسف کے نام سرفہرست ہیں اور صوفیاء میں حضرت ابوسعید الخراز اور حضرت جنید بغدادی رحمہم اللہ کے نام بھی آتے ہیں۔

قاضی محمد یوسف نے بھرے دربار میں المعتضد باللہ احمد سے فرمایا: ”یہ تبر ابازی کا حکم نامہ آپ کو اور آپ کی رعایا کو لے ڈوبے گا، مزاحمت کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا جس کے آگے آپ اور آپ کے مشیر ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔“ خلیفہ نے کہا قاضی یوسف! شاید تم میری تلوار اور اس کی کاٹ سے واقف نہیں، میری تلوار نے تو بس سروں سے ہی کھیلنا سیکھا ہے۔ آپ اگر اپنے سر کو اپنی گردن کے ساتھ چمٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو دانتوں کی دیواریں پھاندنے نہ دیں۔

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ منبر پر وعظ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ماموں حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ نے بار بار آپ سے فرمایا کہ تبلیغ دین کے لئے منبر بڑی مناسب جگہ ہے۔

آپ ہمیشہ یہی فرماتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے وعظ کہوں۔ خلیفہ کی طرف سے جب تبر ابازی کے احکام صادر ہوئے تو ایک رات حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو آنحضور ﷺ خواب میں ملے فرمایا: ”جنید! وعظ کیا کرو۔“

آپ صبح اٹھے اور ارادہ کیا کہ حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ کی خدمت میں جا کر اس خواب کا ذکر کروں۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے جونہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو دروازے پر حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ کو کھڑے پایا اور حضرت جنید



بغدادی سراپا نیاز بن گئے اور اندر آنے کو عرض کیا۔ مگر حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ نے فرمایا آپ کب تک اس انتظار میں رہیں گے کہ لوگ آپ سے وعظ کہنے کو کہتے رہیں۔ اب تو حضور اکرم ﷺ نے بھی فرمادیا ہے، اب تو آپ کو وعظ کہنا ہی پڑے گا۔

ہاں ماموں! آنحضور ﷺ نے مجھے آج رات ایسا ہی فرمایا ہے۔ مگر آپ کو میرے خواب کا کیسے علم ہو گیا۔ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرا حبیب ﷺ جنید بغدادی کے ہاں گیا ہوا ہے۔ آپ ﷺ اسے وعظ کہنے پر آمادہ کریں گے۔ اب آپ کو یقیناً منبر پر رونق افروز ہونا چاہیے۔

اسی دن آپ منبر رسول ﷺ پر تشریف لے گئے۔ ایک مجلس کا انعقاد ہوا اس مجلس میں صرف چالیس آدمی آپ کا وعظ سننے کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے اس مجلس کے لئے عشق خدا کا موضوع انتخاب کیا اور اسرار و رموز کے پردے اٹھانے شروع کر دیئے۔

فرمایا لوگو! میری بات کو غور سے سنو۔ اکثر لوگ اس بات میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں خدا سے محبت بھی ہے اور عشق بھی حالانکہ وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہوتے۔ محبت والے تو اپنے محبوب کے سوا کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں کرتے۔ شاید آپ کو علم ہو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو وہ مقام حاصل تھا کہ وہ ایک نگاہ میں جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سے خدا نے پوچھا، اے بایزید! تم نے میری کائنات میں سے جو چیز دیکھی ہے اور تجھے پسند ہے مجھے بتاتا کہ میں وہ تجھے دے دوں۔

عرض کیا میرے مالک! میں تو ان چیزوں کے خالق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی خاطر اپنی آنکھیں آنسوؤں سے دھو تا ہوں۔ میں اس کے لئے شب بیداری کرتا ہوں۔ اس کی خاطر قیام و سجد کرتا ہوں اگر کوئی چیز دیکھتا ہوں تو اس میں بھی تجھے ہی ڈھونڈتا ہوں۔ رہی چیزوں کو پسند کرنے کی بات۔ تو جو چیز مجھے پسند ہوگی وہی میری عبادت کا مقصد بن جائے گی۔ یہ تو شرک بن جائے گا۔ میرے مولا مجھے شرک سے بچائے رکھ۔ یہی میری تمنا ہے اور یہی میری آرزو۔

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے جب تقریر ختم کی تو اکثر لوگوں پر بے ہوشی طاری تھی۔ اب آپ روزانہ وعظ فرمانے لگے اور سامعین میں اضافہ ہونے لگا۔

ایک دن آپ نے فرمایا لوگو! حضرت امیر معاویہ ؓ کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ میں کہتا ہوں کسی ایک حدیث پر عمل کرنے سے آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ ذرا اندازہ تو کریں اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس نے ان احادیث کو آپ تک پہنچانے میں کام کیا ہو۔ ۱۱۶۳ احادیث کے آپ (امیر معاویہ ؓ) راوی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فضیلت میں



احادیث نبوی بھی ملتی ہیں، مثلاً یہ کہ آنحضور ﷺ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہی معاویہ کو ہدایت یاب اور ہدایت کرنے والا بنادے۔ (ترمذی) پھر یہ کہ الہی! تو معاویہ کو حساب کتاب سکھا دے اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ (مسند احمد) لوگو! یاد رکھو ایسی دعائیں اس شخص کے حق میں دی جاتی ہیں جس سے دعا دینے والا خوش ہو، تو جس سے آپ کے آقا و مولا ﷺ خوش ہیں اس سے آپ دل تنگ کیوں کرتے ہیں اور پھر یہ بھی تو یاد رکھو جن کی محبت کا دم بھرتے ہوئے تم حضرت امیر معاویہ ﷺ پر تبرا بازی کرتے ہو وہ (حضرت علی المرتضیٰ ﷺ) تو خود فرماتے ہیں کہ معاویہ کو برا نہ کہو یہ جب تمہارے درمیان سے اٹھ جائیں گے تو تم دیکھو گے بہت سے سرتن سے جدا کئے جائیں گے (حیرانی ہے تم اس معاویہ ﷺ پر سب و شتم کرتے ہو جس نے پچاس سال تک آنحضور ﷺ کے تراشیدہ ناخن اور موئے مبارک بطور تبرک سنبھال کر رکھے اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو دفناتے وقت میرے منہ پر یہ دونوں تبرکات رکھ دیئے جائیں، چنانچہ ان کی موت پر ایسا ہی کیا گیا۔

لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اس معاویہ ﷺ پر طعن و تشنیع کرتے ہو جن کی بہن حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان آنحضور ﷺ کی زوجہ محترمہ ہیں جو سب مومنین کی ماں ہیں۔ آپ اس نسبت سے آنحضور ﷺ کے بھائی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے نزدیک حضرت معاویہ ﷺ اچھے نہیں ہیں تو کیا حضور اکرم ﷺ کے بھائی بنانے کا انتخاب درست نہیں ہے۔

کچھ تو خیال کرو کہ حضور ﷺ فرمائیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت معاویہ ﷺ بھی آپ ﷺ کے صحابہ میں سے ہیں ان کا دامن تھامنے میں تمہیں کون سے شکوک مانع ہیں۔

چونکہ حضرت امیر معاویہ ﷺ پر تبرا بازی سرکاری سطح پر کروائی جا رہی تھی لہذا علماء و صوفیاء نے اپنا فرض سمجھا کہ لوگوں کو ایسا کرنے سے باز رکھیں۔ حضرت جنید بغدادی کی باتیں اس سلسلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوئیں، آپ کی مجلس وعظ میں سب سے زیادہ لوگ آنے لگے۔

خلیفہ المصنف باللہ احمد کو یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس کے حاشیہ نشینوں کی زبانیں دراز ہونے لگیں۔ وہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے عقائد پر بھی تنقید کرنے لگے یہاں تک کہ انہیں زندیق اور کافر تک کہا جانے لگا۔

خلیفہ انہیں سزا دینا چاہتا تھا مگر کوئی ایسی صحبت قائم نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم امراء سلاطین کے لئے بہانے بنانا اور صحبتیں قائم کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ خلیفہ کی ایک کنیز تھی جسے تین ہزار درہم میں خریدا گیا تھا۔ اس کا نام دریرہ تھا۔ وہ نہایت خوش جمال تھی اور اپنے زمانہ میں زیبائی و ملاحت اور حسن کے اعتبار سے بے مثال تھی۔ خلیفہ کا رجحان اس کی طرف بہت زیادہ تھا اس کی محبت میں وہ اس قدر گرفتار تھا کہ اس کے لئے ساٹھ ہزار دینار کی لاگت سے بحیرہ میں ایک عالیشان محل بنوایا جس میں دریرہ کو رکھا گیا۔ خلیفہ جب اس محل میں جاتا تو اولاً دریرہ کے کمرے کا طواف کرتا پھر دروازے پر دستک دیتا اور سر جھکائے کھڑا



ہو جاتا۔ دریرہ آتی وہ اپنے رخسار اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتی بزور آہستہ آہستہ اس کے سر کو اونچا کرتی۔ المعتمد اسے دیکھتا اسے اپنے کندھوں پر بٹھالیتا اور رقص کنناں ہوتا ہوا کمرے میں چلا جاتا۔

اسی دریرہ سے خلیفہ نے کہا کہ وہ زریور ات نہایت گراں بہا اور جواہرات سے آراستہ ہو کر حضرت جنید بغدادی (علیہ الرحمہ) کے پاس جائے اور چہرہ سے نقاب اٹھا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ میں نہایت مالدار ہوں۔ دنیا سے میرا دل سیر ہو گیا ہے اور میں آپ کے پاس اس غرض سے آئی ہوں کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں قبول فرمائیں اور میں آپ کی صحبت میں حق تعالیٰ کی عبادت کروں۔ کیونکہ میرا دل اب یہی چاہتا ہے کہ میں سوائے آپ کی صحبت کے اور کسی جگہ نہ بیٹھوں۔

جنید بغدادی (علیہ الرحمہ) بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، نفسانی خواہشات اس میں بھی ہیں، شیطان اس کی گھات میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تجھے دیکھے گا تو یقیناً لوٹ پوٹ ہو جائے گا، اس کے جذبات میں گرمی آئے گی، چونکہ اس کی صحبت اختیار کرنے کی پیش کش تیری طرف سے ہوگی، وہ بڑی جلدی مان جائے گا، تم اس کے قریب ہوتے جانا، اتنا قریب کے جنید جنید نہ رہے۔ جنید میری دریرہ کے چنگل میں آجائے، پھر تم اس کی شکایت میرے پاس کرو اور ہم اسے ایک زانی کی سزا میں ملوث کر کے سنگسار کر سکیں۔

دریرہ چلی گئی مگر ساری رات نہ سو سکی، اس نے سن رکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ جو شریعت و طریقت کے شناور ہیں انوار الہی کا مخزن و منبع ہیں۔ انہیں علوم ظاہری و باطنی پر عبور حاصل ہے، انہیں وجوہات کی بنا پر وہ شیوخ، زاہد کامل اور علم و عمل کا سرچشمہ مانے جاتے ہیں۔ آپ کو سید الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، طاؤس العلماء اور سلطان المحققین کے القابات سے بھی پکارے جاتے ہیں۔

میں گندی اور غلیظ زندگی بسر کرنے والی دریرہ اس پاک ہستی پر وہ الزام لگاؤں جو ان کی ذات شریفہ میں نہیں ہے!! وہ تو کسی کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے بہترین اخلاق و کردار کا ثمرہ یہی ہے کہ میری گواہی پر انہیں سنگسار کر کے مار دیا جائے۔ نہیں نہیں ایسا پاکیزہ وجود دنیا و جہاں کے لئے رحمت کا باعث ہے۔

لیکن اگر میں خلیفہ المعتمد باللہ احمد کی توقع پر پوری نہ اُتری تو وہ جس محبت اور خلوص سے میری پوجا کرتا ہے۔ نہ کرے گا، بلکہ میرے جسم کی بوٹیاں کر کے بغداد کے کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ اسے مجھ جیسی کئی دریرہ مل جائیں گیں مگر میرا ذکر اس کی کتاب دل سے نکال دیا جائے گا۔ مجھے وہی کچھ کرنا چاہیے جس کا حکم مجھے خلیفہ دے رہا ہے۔ دوسرے دن دریرہ نے بڑا زرق برق لباس پہنا، زریور ات میں غرق ہو گئی، آنکھوں میں کا جل ڈالا، سر کی زلفیں سنواریں، پھول ٹانگے، رخساروں پر غازہ



ملا، دانتوں کو چمکایا، اور قیامت خیز اداؤں کا مجسمہ بن کے خلیفہ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ آگیا، اس نے دریرہ کو دیکھا تو یقین نہ آیا کہ یہ دریرہ ہے یا قدرت کا ایک اور شاہکار ہے جس نے دریرہ کے حسن کو بھی ماند کر دیا ہے۔ خلیفہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بانہوں میں لے لیا، اس کے رخساروں پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے، کہا دریرہ میں چاہتا ہوں کہ تم آج جنید بغدادی (علیہ الرحمہ) کے ہاں نہ جاؤ آج میں سارا دن بس تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔

دریرہ بولی جیسے آپ کی مرضی میرے آقا، میں تو آپ کی باندی ہوں آپ جو حکم فرمائیں گے اسے بجالانے میں دیر نہ کروں گی۔ اگر مجھے جنید بغدادی کی مہم پر نہیں جانا ہے تو کیا میں یہ لباس اور زیورات اُتار دوں۔ نہیں دریرہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پارہا۔ جنید بغدادی بھی اس وقت میری راہ کا ایک نوکیلا کاٹا ہے، اس کو ہٹا کے مجھے اپنی راہ صاف کرنی ہے۔ تو تو میرے من کی رانی ہے تیری جدائی اور خاص کر کے آج کے دن مجھے بے قرار کر دے گی، یہ بے قراری میرے لئے بڑا کڑا امتحان ہوگی۔

جاؤ! تم نے آج جس مقصد کے لئے تیاری کی ہے اسے حاصل کرنے کے لئے جاؤ اور بڑی جلدی مجھے اپنی کامیابی کی اطلاع دو، تمہارے ساتھ میرا ایک آدمی بھی جائے گا اگر تمہیں حصول مقصد میں کوئی دشواری پیش آئی تو یقیناً وہ تمہارے کام آئے گا۔

دریرہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی خدمت میں جا پہنچی۔ خلیفہ کا نوکر اس کے پیچھے پیچھے تھا، باوجود اس کے اکثر لوگ دریرہ سے آگاہ تھے، مگر اس کی ادائے جانانہ اور رفتار معشوقانہ ہر نگاہ کو اسے دیکھنے کی دعوت دے رہی تھی۔

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ گھر میں اکیلے تھے۔ خادم نے آگے بڑھ کر دستک دی اور دریرہ کے داخلہ کی اجازت طلب کی، دریرہ اندر آ گئی۔ اس نے آتے ہی چہرے سے نقاب اُٹھا دیا۔ حضرت صاحب سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ دریرہ کے آنے پر اسے ایک نظر دیکھا۔ آپ نے پھر نظریں نیچی کر لیں۔ نوکر دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔

حضرت صاحب منتظر تھے کہ آنے والی خاتون خود ہی آنے کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرے گی مگر حضرت صاحب کی خاموشی نے دریرہ کو گفتگو کی اجازت نہ دی وہ چپ رہی اس کا خیال یہی تھا کہ شاید حضرت صاحب اوراد میں مشغول ہیں، فارغ ہوں گے تو خود ہی مجھ سے آنے کے بارے میں پوچھیں گے۔

تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا کہ دریرہ کو مجھ سے کیا کام ہے؟

دریرہ نے وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے بیان کرنی شروع کر دیں جن کی اسے تعلیم دی گئی تھی۔

جب اس نے اپنی بات ختم کر لی تو حضرت صاحب نے فرمایا۔ دریرہ! تم نے جو باتیں میرے روبرو بیان کی ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق درست نہیں ہیں۔ کیونکہ تو نے کہا ہے:



(۱).....دنیا سے میرا دل سیر ہو گیا ہے۔ حالانکہ دنیا داری تیرے انگ انگ سے نمایاں ہے۔

(۲).....تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اپنی صحبت میں قبول کروں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں جس کی صحبت اختیار کرنی ہو پہلے اس صحبت کے اثرات قبول کرنے ہوتے ہیں۔

(۳).....اور تو نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی صحبت میں حق تعالیٰ کی عبادت کروں۔ عورت کی عبادت گاہ اس کا گھر ہے۔

لہذا تمہیں چاہیے کہ یہ مکرو فریب کے جال سمیٹ کر اس کے پاس چلی جا جس نے تجھے میرے ہاں بھیجا ہے۔

اب دریرہ نے خوشامدانہ انداز اختیار کر لیا۔ چا پلوسی کرنے لگی۔ آپ اللہ والے ہیں، اللہ والے تو اللہ کی مخلوق سے پیدا کرتے ہیں۔ ان کے دل کی جراحاتوں پر مرہم کے پھائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسے گنہگاروں کو ٹھکرا دیا۔ تو ہم کس ٹھکانے کو تلاش کریں گے۔

دریرہ گفتگو کرتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ آگے کی طرف سرکتی رہی۔ یہاں تک کہ وہ حضرت صاحب کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ دریرہ کا گھٹنا جو نبی حضرت کے گھٹنے سے لگا، حضرت صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا دریرہ! اگر تو اپنی زندگی چاہتی ہے تو اُلٹے پاؤں واپس چلی جاؤ۔

حضرت صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زندگی ضائع کر دینے کی دھمکی تو امراء دیا کرتے ہیں۔ ایسے لفظ ظالموں کی زبان سے سنے جاتے ہیں، آپ کیوں ایسے لفظ اپنی زبان پر سجانے لگے۔ شاید آپ نہیں جانتے میں دریرہ ہوں میری حکومت تو ہر دل پر قائم ہو سکتی ہے۔

آپ کے دل میں کس قدر سختی ہے۔ جو دریرہ کی خاطر نرم نہیں ہو رہا۔ مجھے ایک بار نظر بھر کے دیکھیں تو سہی۔ آپ کی آنکھوں میں بس جاؤں گی۔

دریرہ میرے پاس ایسی باتوں کے لئے وقت نہیں ہے، بس آپ چلی جائیں۔ مجھے دیکھنے پر مجبور نہ کریں میں نے دیکھ لیا تو پھر شاید تو کسی دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔

یہی تو میں چاہتی ہوں آپ مجھے دیکھیں میں قدرت کا شاہکار ہوں۔ مجھے جس نے بھی دیکھا ہے وہ میرا ہو کے رہ گیا ہے۔ اب دریرہ نے اپنی لمبی انگلیوں والا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ آپ سے لپٹ جانا چاہتی تھی۔ حضرت صاحب نے فوراً سر اٹھایا ایک آہ بھری۔ دریرہ اسی وقت گر پڑی اور فوت ہو گئی۔

غلام کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی وہ بھاگا بھاگا خلیفہ کے پاس گیا۔ اور دریرہ کے مرجانے کی اطلاع دی۔

حسن (غلام کا نام) یہ مجھے تم کیا سنار ہے ہو؟ کس کی موت کی اطلاع مجھے دے رہے ہو خلیفہ نے رندھی ہوئی آواز میں غلام



سے پوچھا۔

جی حضور! میں سچ کہتا ہوں، حضرت جنید بغدادی نے اسے ایک نظر دیکھا اور شاید وہ ان کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکی۔ بس باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اور موت نے اسے ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا۔

کہیں جنید بغدادی (علیہ الرحمہ) نے اسے کوئی طمانچہ تو نہیں مارا، کوئی زہریلی چیز تو نہیں اسے کھلا دی؟ نہیں حضور وہ تو بڑی لہک لہک کے باتیں کر رہی تھی۔ اپنی باتوں اور اداؤں کا جادو جگ رہی تھی، البتہ اس کی باتوں میں کھلی دنیا داری تھی۔ وہ دنیا داری جسے اللہ والے پسند نہیں کرتے۔

خلیفہ کے بدن میں آگ سی لگ گئی، اسی وقت اٹھا اور حالات و حقائق معلوم کرنے کے لئے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے ہاں روانہ ہوا۔ دیکھا کہ دریہ زمین پر پڑی ہے۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹیں ہیں۔ جو وہ لے کر تھوڑی دیر پہلے خلیفہ کے پاس سے آئی تھی۔ خلیفہ کی آنکھیں اس کی جدائی میں بھیگی ہوئی تھیں۔

خلیفہ نے عرض کیا: اے شیخ آپ کا حال کیسا ہے؟ آپ نے اسی محبوبہ کو مار ڈالا اور جلادیا جس کی نگاہ اور مسکراہٹ کتنی ہی لوگوں کو مار سکتی تھی، اور کتنی ہی لوگوں کو جلا سکتی تھی۔

آپ نے فرمایا اے امیر المومنین! کیا آپ کو مومنوں پر ایسی ہی شفقت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری چالیس سالہ ریاضت بے خوابی اور نفس کشی کو وہ کنیر برباد کر دیتی۔ یہ آپ کی دریہ چاہتی تھی کہ میرے ان تاروں کو توڑ دے جو بڑی مشکل سے میرے خدا سے ملے تھے۔ لیکن یہ بربادی مجھے پسند نہیں تھی۔ میں نے ان تاروں کو توڑ دیا جن کا تعلق آپ اور دریہ کے درمیان قائم تھا۔ آپ کے نزدیک دریہ مر گئی ہے۔ مگر میرے نزدیک وہ زندہ ہو گئی ہے۔

وہ ایک فقیر کے ہاں غلیظ زندگی میں لتھڑی ہوئی آئی تھی۔ اس فقیر نے پسند نہیں کیا کہ وہ پھر اس طرح کی زندگی گزارے۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ اور مزید گناہ کرنے سے بچا لیا ہے، جاؤ اسے لے جاؤ اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرو۔

خلیفہ ان باتوں سے مطمئن ہو گیا وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ واقعتاً اللہ کے پیارے ہیں۔ اور سچے صوفی ہیں۔ اس کے بعد اسے جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرے، بلکہ آپ کے نام اور مقام سے واقف ہو گیا۔ اور آپ کا نام عزت و توقیر سے لیتا تھا۔

دریہ کی لاش خلیفہ کے حکم سے اٹھائی گئی۔ اور بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ خلیفہ خود اس کے جنازے کے ساتھ گیا۔ اور اس کے فراق میں درد انگیز ایک قصیدہ لکھا جسے وہ اکثر پڑھا کرتا تھا۔ اس نے اس محل کو منہدم کروا دیا جو دریہ کے لئے



بنوایا تھا۔ مگر شاید وہ مندر منہدم نہ ہو سکا جو اس نے اپنے دل میں بنا رکھا تھا۔ کیونکہ دریہ کے غم اور اس کی یاد اسے برابر تڑپانی رہی۔ وہ اس کے غم میں بیمار ہو گیا اور ۲۲ ربیع الآخر ۲۸۹ھ میں وفات پا گیا۔

حضرت جنید بغدادی ۲۱۰ھ میں اس دنیا میں تشریف لائے اور ۲۹۷ھ میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

(بشکریہ ماہنامہ ”نور الاسلام“ لاہور)

## تبصرہ اویسی غفرلہ

یہاں سے سنی ہو کر حضرت امیر معاویہ ؓ کی دشمنی و عداوت پر کمر بستہ ہیں وہ خصوصیت سے اس نظریہ پر نظر ثانی کریں کہ سیدنا جنید بغدادی ؓ سنیوں کے پیرانِ پیر نے جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی طعن و تشنیع کی پرواہ کئے بغیر حضرت امیر معاویہ ؓ کا کس طرح دفاع فرمایا، لوگوں نے آپ کو زندیق تک کہا اس کی بھی آپ نے پرواہ نہ کی۔ سنی برادری پر لازم ہے کہ وہ تاریخی کتابوں کے افسانے پڑھ کر جہنم کا ایندھن نہ بنیں بلکہ اپنے پیرانِ پیر سیدنا جنید بغدادی ؓ کی پیروی کریں۔

## آغاز سوالات و جوابات

ہم حضرت امیر معاویہ ؓ یا کسی اور صحابی کے بارے میں عصمت کا دعویٰ نہیں کرتے، عصمت ملائکہ و انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیت ہے جیسا کہ ”مراۃ الکلام“ میں اس کی تحقیق کی گئی ہے اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام سے بہت سی باتیں جو سہو یا بطور شریعت صادر ہوئی ہیں انہیں لغزش کہا جاتا ہے مگر ان کا نام ترکِ افضل رکھنا افضل ہے اور اگر کسی صحابی سے ایسی بات صادر ہو جو ان کے مقام کے لائق نہیں تو یہ بعید از امکان نہیں اور جب صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے درمیان مشاجرات رونما ہوئے تو ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں۔ سخت کلامی بھی ہوئی اور ایسے امور بھی سرزد ہوئے جن میں تامل کرنے والے کو تو حش ہوتا ہے۔

لیکن ہمارے اہلسنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایسے امور میں حتی الوسع تاویل کی جائے اور جہاں تاویل ممکن نہ ہو وہاں روایت کا رد کر دینا واجب ہے اور سکوت اختیار کرنا اور طعن سے گریز کرنا لازم ہے کیونکہ یہ بات قطعی ہے کہ اللہ عزوجل نے ان اکابر سے مغفرت اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی اور جو شخص ان پر زبانِ طعن دراز کرے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے اس لئے تمام صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) سے حسنِ طعن رکھنا اور ان کا ادب کرنا تمام اہل اسلام پر واجب ہے اسی پر ہم اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا



کرتے ہیں۔

## لطیفہ

اکثر لوگ حضرت امیر معاویہ ؓ پر طعن اور شکوہ کرتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہو کہ شاید ان سے کوئی بات ہوگئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ تاقیامت ان کے لئے اعمالِ صالحہ کا سلسلہ جاری رہے۔

## نکتہ

چونکہ شیعہ مرتد ہیں ان کی نیکیاں کہاں۔ سنی صحابہ میں سے صرف امیر معاویہ ؓ کی مذمت کرنے لگے تو ان کی نیکیاں امیر معاویہ ؓ کے لئے جمع ہو رہی ہیں۔

## مقدمہ

سوالات سے پہلے چند اہم قواعد سمجھنے ضروری ہیں۔

(۱)..... ابن العربی نے ”عارضۃ الاحوذی“ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ؓ کے متعلق مخالفین نے من گھڑت افسانے گھڑے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کئے وہ سب کے سب غلط ہیں اور بعض احادیث قابلِ اعتبار ہیں لیکن ان کے محامل غلط بیان کئے اور جن لوگوں سے ایسی باتیں منقول ہیں وہ خود گمراہ اور عقیدہ اہلسنت سے کوسوں دور تھے اسی لئے ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

(۲)..... قرآن مجید نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بار بار مدح سرائی فرمائی ہے اور مجموعہ احادیث تو شمار سے باہر ہے۔ جو انسان خدا اور رسول جل جلالہ، ﷺ کو مانتا ہے وہ ان کے ارشادات کی طرف کان نہیں دھرتا، محض چند تاریخی دھکوسلوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مخالف بنتا ہے تو وہ یقین کرے کہ وہ زندہ دوزخی ہے۔

(۳)..... حضرت امیر معاویہ ؓ پر جتنے اعتراضات ہیں اکثر من گھڑت ہیں، اگر بعض روایات میں کچھ ہے تو ان کی تاویل لازم ہے اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ معظم حضرات کی خطا کو خطا سمجھنا عین خطا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

”خطائے بزرگان گرفت خطاست“

## سوال نمبر ۱

بعض محدثین جن میں مجدالدین شیرازی ”صاحب سفر السعادة“ بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ ان کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام بخاری ؓ نے ابن ابی ملیکہ کی حدیث پر ”باب ذکر معاویہ“ کا عنوان قائم کیا



ہے دوسرے صحابہ کی طرح مناقب یا فضائل کا عنوان نہیں رکھا۔

## جواب نمبر ۱

اس سے پہلے دو حدیثیں گزر چکی ہیں (۱) مسند احمد کی (۲) سنن ترمذی کی

پس اگر عدم صحت سے مراد عدم ثبوت ہے فلہذا یہ قول مردود ہے اور اگر صحت سے صحت مصطلح عندالمحدثین مراد ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کا دائرہ تنگ ہے احادیث صحیحہ کی قلت کی وجہ سے بیشتر مناقب احادیث (حسن) (حسن کی جمع) ہی سے ثابت ہوتے ہیں۔

## جواب نمبر ۲

مسند احمد و سنن کی حدیث درجہ حسن سے کم نہیں اور فن حدیث میں طے ہو چکا ہے کہ حدیث ضعیف پر بھی عمل جائز ہے حدیث حسن کی تو بات ہی کیا ہے۔ علامہ پرہاروی نے فرمایا کہ میں نے کسی معتبر کتاب میں امام مجدالدین ابن الاثیر کا قول دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ ؓ کی فضیلت میں مسند احمد کی حدیث صحیح ہے لیکن اس کتاب کا نام اس وقت میرے ذہن سے اُتر گیا۔

## جواب نمبر ۳

شیخ مجدالدین ہوں یا کوئی اور محدث کوئی بات فرمائیں تو وہ ان کا اپنے مطالعہ اور معلومات تک محدود ہوگا اصل حقیقت کا انکار نہیں ہو سکے گا، مثلاً امام مالک نے حضرت اولیس قرنی کے وجود کا انکار کیا تو وہ ان کے اپنے معلومات تک محدود ہے اس سے حضرت اولیس قرنی ؓ کے وجود کا انکار نہیں ہوگا۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”ذکر اولیس“ میں۔

## جواب نمبر ۴

امام بخاری ؓ کے طرز کا جواب یہ ہے یہ ان کا تفسن فی الکلام ہے چنانچہ انہوں نے اسامہ بن زبیر عبداللہ بن سلام جبیر بن مطعم بن عبداللہ (رضی اللہ عنہم) کے اذکارِ جلیلہ ذکرِ فلاں کے عنوان سے ہی ذکر فرمائے ہیں۔

## جواب نمبر ۵

کسی کا ذکر اس سے محبت کی دلیل ہے۔ حدیث شریف میں ہے ”من احب شیئاً اکثر ذکرہ“ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو ذکر بھی مدح ہے۔ حضور سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا ”ذکر الانبیاء عبادۃ و ذکر الاولیاء کفارة للذنوب“ (کنز العمال) انبیاء علیہم السلام کا ذکر عبادت اور اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔



اور مشہور ہے **تنزل الرحمة عند ذکر الصالحین**۔ اللہ والوں کے ذکر پر نزول رحمت ہوتا ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمہ کا باب المناقب میں اس کا عنوان ذکر سے کرنا مناقب و فضائل کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔

## سوال نمبر ۲

صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں حضور نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے ازراہ کرم میرے کاندھوں کے درمیان مٹکا مار کر فرمایا جاؤ معاویہ (ؓ) کو بلا لاؤ۔ میں گیا اور واپس آ کر عرض کی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے۔

## جواب نمبر ۱

یہ کلمہ عادت عرب کے طور پر ہے مثلاً کہا جاتا ہے **”قاتلہ اللہ ما اکرمة ویل امہ وابیہ ما اجودہ“** اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے، اگر تسلیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت و قربت بنادے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے۔

(۱) صحیح مسلم میں ایک باب کا عنوان ہے کہ جس شخص کو آنحضرت ﷺ نے لعنت کی ہو یا سخت کلمہ کہا ہو یا بددعا دی ہو اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو یہ اس کے لئے پاکیزگی اجر اور رحمت ہے۔

(۲) اسی باب میں حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی یہ حدیث بھی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب ﷻ سے کیا شرط کر رکھی ہے۔ کہ میں نے دعا کی اے اللہ! میں بشر ہی تو ہوں پس جس شخص کو میں نے لعنت کی ہو یا اسے سخت لفظ کہا ہو تو تو اس کے لئے اسے زکوٰۃ (پاکیزگی) اور رحمت بنادے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ ؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دعا کی کہ اے اللہ! میں تیرے ہاں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں تو کبھی اس کے خلاف نہ فرما۔ میں بشر ہی تو ہوں پس جس مسلمان کو میں نے ایذا دی ہو، گالی دی ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو تو پس تو اس کو اس شخص کے لئے رحمت زکوٰۃ اور قربت عطا فرما، یعنی قیامت میں اس کو اپنا قرب خاص عطا فرما۔

(۴) ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، اے اللہ! محمد (ﷺ) بھی ایک بشر ہے اسے بھی غصہ آ جاتا ہے جس طرح کہ دوسرے انسانوں کو غصہ آ جاتا ہے الخ۔

(۵) حضرت انس ؓ کی حدیث نقل کی ہے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب ﷻ سے ایک شرط کر رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک بشر ہی ہوں خوش بھی ہوتا ہوں جس طرح اور انسان خوش ہوتے ہیں غصے بھی ہوتا ہوں جس طرح



اور انسان غصے ہوتے ہیں۔ پس اپنی امت کے جس شخص پر میں نے بددعا کی ہو جس کا وہ مستحق نہ ہو تو میری دعا یہ ہے کہ تو اس بددعا کو اس کے لئے طہارت اور زکوٰۃ اور قربت کا موجب بنادے۔ کہ اس کے ذریعہ تو اسے قیامت تک اپنا قرب عطا فرماتا رہے۔

## فائدہ

ان روایات سے ثابت ہوا کہ یہ بددعا نہیں تھی، بلکہ لطف و کرم کا کلمہ اور حضرت امیر معاویہ ؓ کے لئے رحمت ہی رحمت ثابت ہوا بلکہ ہزاروں مراتب و کمالات کے حصول کا موجب، چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جملہ برائے امیر معاویہ بددعا نہیں بلکہ دعا ہے۔ (تطہیر الجنان)

جب دعا ہے تو اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے اور یقیناً یہ دعا بھی مستجاب ہوئی اور جب واضح ہو گیا کہ یہ کلمہ دعابن کر نکلا اور پھر وہ اپنے معنی میں نہیں بلکہ اس سے دنیوی منفعتوں سے مالا مال ہونا مراد ہے کیونکہ سیر ہو کر کھانا دنیا کی منفعتوں سے مالا مال ہونا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا پیٹ بھرا ہوا ہے یعنی مالدار ہے اور پیٹ بھر جانا ایک نعمت خداوندی ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور رسول اللہ ﷺ کی دعا کی قبولیت کا یقین ہونا ہم اہلسنت کے عقیدہ میں شامل ہے۔ تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گویا حضرت امیر معاویہ ؓ کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیوی منفعتوں سے بھر پور فرمائے۔ چنانچہ یہ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی دعا پاک کا ثمر ہے کہ حضرت امیر معاویہ ؓ نے دنیوی منفعتوں سے وافر مال پایا اور ظاہر ہے کہ یہ منفعتیں ان کے لئے رحمت ہی رحمت بنا اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ مزید جوابات و تشریح فقیر کی تصنیف ”فضائل امیر معاویہ“ میں پڑھئے۔

## سوال نمبر ۳

ترمذی نے یوسف بن سعید سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسن بن علی ؓ نے حضرت امیر معاویہ ؓ سے بیعت کر لی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے اہل ایمان کا منہ کالا کیا، یعنی، کہا اے امیر! مومنوں کا منہ کالا کرنے والے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے مجھے اس پر ملامت نہ کر کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے بنو امیہ کو اپنے منبر پر بیٹھے دیکھا تو آپ کو ناگواری ہوئی اور اس پر اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوئی یعنی، اے حبیب (ﷺ) ہم نے آپ کو کوثر (جو ایک بہشت کی نہر ہے) عطا کی اور اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا اَدْرِيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ نازل ہوئی۔ یعنی اے محبوب ﷺ آپ کے بعد صرف بنو امیہ ایک ہزار مہینے تک حکمران ہوں گے۔



قاسم بن فضل کہتے ہیں کہ ہم نے بنو امیہ کی حکومت کا حساب لگایا تو پورے ہزار مہینے نکلا نہ کم نہ زیادہ۔

امام ابن اثیر الجامع میں فرماتے ہیں کہ ان کی حکومت ۸۳ سال ۴ مہینے رہی۔ حضور اکرم ﷺ کے وصال کے ٹھیک پورے تیس سال بعد حضرت حسن ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ سے بیعت کی اور ان کی حکومت ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ پس یہ کل مدت ۹۲ سال ہوئی اس میں سے ابن زبیر ﷺ کی مدت خلافت آٹھ سال آٹھ مہینے نکال دیئے جائیں تو پورے ہزار مہینے باقی رہ جاتے ہیں اور حضرت عمران بن حصین ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ تین قبیلوں کو ناپسند فرماتے (۱) بنو ثقیف (۲) بنو حنیفہ (۳) بنو امیہ۔ (رواہ الترمذی)

## جواب

اس سے مقصد مطلقاً بنو امیہ کی مذمت نہیں کیونکہ انہی میں سے حضرت عثمان ﷺ اور خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز ﷺ بھی تھے اور یہ دونوں باجماع اہلسنت امام ہدایت تھے۔ آنحضرت ﷺ کو جس چیز سے ناگواری تھی وہ تھی جو یزید بن معاویہ، عبداللہ بن زیاد اور اولاد مروان سے صادر ہوئی یعنی سنت کی مخالفت اور صحابہ کرام اور عترت مطہرہ کو ایذا دینا۔ حضرت حسن ﷺ کا مقصود یہ تھا کہ امر خلافت کا بنو امیہ کی طرف مستقل ہونا نوشتہ تقدیر اور اہل بیت نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہتر ہیں۔

## سوال نمبر ۴

صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان (رضی اللہ عنہ) حضرت سعد ﷺ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ابو تراب (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کو برا بھلا کہنے میں آپ کو کون سی چیز مانع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جو آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں میں کبھی ان کی برائی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی (علیہم السلام) مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“ دوسرے یہ کہ آپ نے خیبر کے دن فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت رکھتا ہوگا اور خدا اور رسول کو اس سے محبت ہے۔ تیسرے یہ کہ ”جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین (رضی اللہ عنہم) کو ملایا اور کہا کہ اے اللہ عزوجل یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔“ اور کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بدگوئی کرنا کھلی غلطی ہے۔

## جواب نمبر ۱



شرح مسلم میں ذکر کیا ہے کہ اس کی تاویل لازم ہے یا تو یہ کہ سب سے ان کے اجتہاد کی غلطی اور اپنے اجتہاد کی درستگی کا اظہار مراد ہے۔

## جواب نمبر ۲

انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ حضرت علیؑ کی بدگوئی کرتے ہیں اس لئے انہوں نے چاہا کہ حضرت سعدؓ کی زبان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت کا اظہار کرا کر انہیں اس فعل سے باز رکھیں۔

## جواب نمبر ۳

اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا بھلا کہنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ سبب مانع دریافت کیا گیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ”ابو تراب“ کی کنیت سے یاد کرنا کوئی طعن نہیں ہے کیونکہ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبوب ترین کنیت تھی، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰؑ خود بھی اس کنیت کو زیادہ پسند فرماتے اس لئے اس کنیت سے ہی حضورؐ نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کی صلح کا آغاز کیا تھا، تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”شرح حدیث فدک“

## جواب نمبر ۴

حضرت امیر معاویہؓ صحابی رسول، کاتب وحی الہی، صحابی کے بیٹے اور حضور نبی کریم ﷺ کے سالے تھے۔ جیسے تفصیل گزری ہے۔ ہمارے لئے بہتری اسی میں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے باہم اختلاف کو ہوا نہ دیں اور ان کے معاملہ کو سپرد خدا کر دیں۔

## جواب نمبر ۵

خلافت معاویہؓ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مخالفین کا کافی زور ہو گیا۔ اور وہ ان کو برائی کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ اس لئے حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت سعد کو سب و شتم پر اُکسایا نہیں بلکہ ان سے دریافت کیا ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ **مَا مَنَعَكَ** اس پر دال ہے کہ ان کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کیا ظن ہے اور وہ کس وجہ سے مخالفین علی کا ساتھ نہیں دیتے اگر وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جلالت مرتبت کا لحاظ رکھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ وہ غلطی پر ہیں اور ان کو اس کلمہ سے اجتناب چاہیے۔ حضرت امیر معاویہؓ کے اس سوال کا جواب جو حضرت سعدؓ نے دیا اس سے ان کے مافی الضمیر اور حضرت علیؑ کے علو شان کا پتہ چلتا ہے۔ وہ جواب یہ تھا کہ اے معاویہ میں حضرت علیؑ کو گالی نہ دوں گا کیونکہ میں نے حضورؐ سے سنا تھا کہ وہ تو میرے لئے ایسے ہیں جیسے موسیٰ (علیہ السلام) کے لئے ہارون (علیہ السلام) اور یہ



کہ خیر میں فرمایا کہ میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور رسول کو محبوب ہے۔ اور جب مباہلہ کی آیت اتری تو حضور ﷺ علی وفاطمہ و حسنین کو ساتھ لے گئے۔ (رضی اللہ عنہم)

## جواب نمبر ۶

سطحی طور پر تو یہ اعتراض بڑا وزنی معلوم ہوتا ہے کیونکہ عوام میں لفظ سب گالی گلوچ اور بدگوئی کے لئے مستعمل ہو رہا ہے لیکن اہل علم کے نزدیک سرے سے یہ حدیث شریف قابل اعتراض نہیں بلکہ غور و فکر سے کام لیا جائے تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مدائح و مناقب سننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خیر خواہ ہیں۔ مجھے جو جواب دے گا وہ مدح ہی ہوگی۔

## جواب نمبر ۷

یہ سوال جاہل تو کر سکتے ہیں لیکن اہل علم کو زیب نہیں دیتا کیونکہ قرآن و حدیث کے محاورات اور استعمالات کو اگر ہم عوام کے خیال پر صحیح سمجھیں تو پھر دین و ایمان کی خیر نہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِن هٰی الْاَفْتِنٰتُكَ۔ فتنہ ہمارے عرف میں ایک برا کلمہ ہے لیکن اللہ عز و جل اپنے لئے فرما رہا ہے حالانکہ یہاں پر فتنہ بمعنی آزمائش ہے۔ ایسے ہی ”وَمَكْرُؤٌ وَّامْكْرَاللّٰهُ“ ہمارے عرف میں مکر ایک قبیح فعل ہے لیکن اللہ عز و جل نے اپنے لئے فرمایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں مکر بمعنی خفیہ تدبیر ہے۔ ایسے ہی محاورہ سب قرآنی آیات و احادیث میں مختلف استعمالات رکھتا ہے۔

(۱) کسی کی برائی کرنا کما قال تعالیٰ

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فِیْسُبُّوا اللّٰهَ عَدُوًّا بِغَیْرِ عِلْمٍ (پارہ ۷، سورۃ الانعام، آیت ۱۰۸)

## ترجمہ

تم انہیں برا نہ کہو جن کو یہ مشرکین خدا کے سوا پوجا کرتے ہیں ورنہ یہ خدا کو بے علم بُرا کہیں گے۔ یہاں سب کے معنی گالیاں نہیں کیونکہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) فحش گوئی نہیں کیا کرتے تھے بہت مہذب بزرگ تھے یہاں سب کے معنی بُرا کہنا ہے۔

(۲) حضور نبی کریم ﷺ نے اللہ کے حضور دعا کی ”فای مسلم لعنة اوسبته فاجعل له زکوة ورحمة“۔ جس مسلمان کو میں لعنت کر دوں اور برا کہوں تو اس کے لئے اسے رحمت اور پاکی بنا دے۔ یہاں سب کے معنی گالی دینا نہیں کیونکہ آقائے دو جہاں رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر کبھی گالی نہ آ سکتی تھی بلکہ یہاں سب و لعن کے معنی کسی کو برا بھلا کہنا مراد ہے۔



ان محاورات سے معلوم ہوا کہ سب بمعنی گالی گلوچ نہیں بلکہ کسی کی کمی اور اس کی غلطی کا اظہار وغیرہ مراد ہوتا ہے یہاں یہ مراد نہیں۔

(۳) کبھی سب یوں ہوتی کہ کسی شخص کی سب کی جائے کہ اس کے نام کے بجائے اس کی وہ کنیت یا لقب بیان کیا جائے جو علم و لقب و صفت میں سے کم درجہ ہو چنانچہ ملاحظہ ہو۔ بخاری شریف مناقب علیؑ میں ہے **هذا فلان امير المدينة يدعوا عليا عند المنبر قال فيقول ما ذا اقال يقول له ابو تراب فضحك والله ما سماه الا النبي ﷺ ما كان له اسم احب اليه منه۔**

یہ فلاں حضرت امیر معاویہ و حضرت علیؑ (کو برسر منبر بُرا کہتا ہے۔ پوچھا وہ کیا کہتا ہے، کہا وہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ پس حضرت سہلؓ بنے اور فرمایا کہ واللہ اس نام سے تو نبی کریم ﷺ نے اُن کو یاد فرمایا ہے اور حضور ﷺ سے ان کا اس سے زیادہ پیارا نام اور کوئی نہ تھا۔

طبری میں بھی بالاسناد انہی ابو حازم علیہ الرحمہ سے اسی مضمون کی روایت ہمارے بیان کردہ معنی کی تائید کرتی ہے۔

### (۴) مزید تائید

**قيل سهيل بن سعدان امير المدينة يريد ان يبعث اليك تسبب عليك عند المنبر قال كيف اقول قال تقولوا ابا تراب فقال والله ما سماه بذلك الا رسول الله ﷺ والله ما كان اسم احب اليه منه۔**  
(الاستيعاب، ج ۳ ص ۵۴)

حضرت سہل بن سعدؓ سے کہا گیا کہ امیر مدینہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیجنا چاہتا ہے تاکہ آپ حضرت علیؑ کو منبر کے قریب سب کہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا کہوں؟ کہا، آپ کہیں ”**ابو تراب**“ پس حضرت سہلؓ نے کہا بخدا اس نام سے تو نبی کریم ﷺ نے انہیں پکارا ہے۔ خدا کی قسم حضور کا اس سے پیارا نام اور کوئی نہ تھا۔

اہل عرب سب کے لفظ کو یوں سب سمجھتے تھے جسے حضرت امیر معاویہؓ کو اگر سب کیا ہے تو یہی کہ ان کی اعلیٰ کنیت سے ادنیٰ کو لے کر، ورنہ سب کے عوامی اور گالی کے مفہوم سے ان اصحاب رسول کی زبان نہ آلودہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی یہ صرف



ان قدوسیوں کی ذات پاک پر ایک ناپاک افتراء ہے۔ جس کی حقیقت افسانہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔

(۵) حضرت سعد کو سیدنا علیؑ کو گالی دینے کے متعلق نہ کہا بلکہ وجہ پوچھی کہ تم حضرت علیؑ کی کوئی غلطی یا خطاب بیان کیوں نہیں کرتے اور منشا یہ تھا کہ حضرت سعدؓ حضرت علیؑ کے فضائل بیان کریں۔ اور حضرت علیؑ کو برا کہنے والے لوگ سنیں اور آئندہ اس برا کہنے سے باز رہیں۔ اس لئے حضرت سعدؓ نے جب حضرت علیؑ کے فضائل بیان کئے تو امیر معاویہؓ خاموش رہے اگر برا کہنا مقصود ہوتا تو جب حضرت سعدؓ نے بیزاری ظاہر فرمائی تو خود کوئی نہ کوئی باتیں بنا کر حضرت علیؑ کی تنقیص کر ڈالتے یا کم از کم حضرت سعدؓ کی بیان کردہ فضیلتوں سے اظہارِ نفرت فرماتے۔

(۶) پہلے بار ہا عرض کیا جا چکا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نیک گمان کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کی روایات میں تاویل کرنا چاہیے اگر آیات و احادیث کے ظاہری معنی ہر جگہ کئے جائیں تو ہزار ہا اعتراضات خود اللہ عز و جل پر اور تمام پیغمبروں پر ایسے وارد ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان برباد ہو جائیں گے، مثلاً ہندوؤں اور دہریوں نے اللہ ﷻ پر اعتراضات اٹھائے اور وہ بھی قرآنی آیات کو لے کر (دیکھو مستیارتھ پرکاش) ایسے ہی وہابیوں، دیوبندیوں اور نجدیوں نے رسول اللہ ﷺ اور شیعوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر وہ بھی صرف اپنی بدگمانیوں اور کم علمی کی وجہ سے، ورنہ بے عیب لوگوں میں عیب نکالنا اپنا نقصان کرنا ہے۔

(۷) یہ حدیث تو مجمل ہے اگر صریح الفاظ بھی ہوں تب بھی علمائے اہلسنت کا فیصلہ ہے کہ ایسے پاکباز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مراد کچھ اور ہوگی۔

جیسا کہ شارح مسلم حضرت علامہ امام محی الدین نووی قدس سرہ شرح مسلم میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

**قال العلماء الاحادیث الواردة التي في ظاهرها يدخل على صحابي يجب تاويلها قالوا ولا يقح في روايات الثقات الا ما يمكن تاويله۔**

علماء کا قول ہے کہ جن احادیث میں بظاہر کسی صحابی پر حرف آتا ہو اس کی تاویل واجب ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ صحیح روایات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تاویل نہ ہو سکے۔

ہم اہلسنت تو اپنے ائمہ کی تلقین کے مطابق تاویل کے قائل ہیں اور چند تاویلات فقیر نے اوپر عرض کر دی ہیں، اگر شیعہ نہیں مانتے تو ہمارا ان سے کیا واسطہ، ہمارے معروضات تو اپنے اہلسنت کے لئے ہیں۔

**جواب نمبر ۸**



حضرت امیر معاویہ ؓ اس غلط رویہ کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں جب کہ انہوں نے عین لڑائی کے دوران بھی مخالفین (عیسائی) کو سختی سے دبا دیا، جب اس نے حضرت علی ؓ کے متعلق کچھ خلاف اطلاع بھجوائی اور پھر حضرت علی ؓ سے پیار و محبت اور بہتر تعلقات بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مؤول ہے ورنہ وہ مضامین جو ہم ان کے باہم محبت اور پیار کے متعلق لکھ چکے ہیں کیا جواب ہوگا۔

## جواب نمبر ۹

بعض اہل علم نے روایت مذکورہ کے راویوں پر بھی بحث کر کے حدیث شریف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اگر یہ روایت غیر صحیح ہو تو بھی استدلال غلط ہے۔

## سوال نمبر ۹

مسند امام احمد، ص ۸۷ تا ص ۸۹، ج ۱ میں بعض روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ جو حضرت امیر معاویہ ؓ کے دست و بازو وزیر مشیر اور گورنر تھے کوفہ میں حضرت علی ؓ پر سب و شتم کرتے کراتے۔

## جواب

اول تو ان روایات میں تعارض ہے پھر ان کے راوی عموماً کمزور ہیں، بعض سوء حفظ میں مبتلا ہیں بعض میں تشیع تھا۔ ایک طریق میں علی بن عاصم سے ملا انہوں نے کئی چیزیں کئی حدیثیں خالد الخدّاء سے روایت کی ہیں ”**فاتیت خالداً فسئالتُ عنها فانکرھا کلھا۔**“ میں خالد کے پاس گیا اور اس سے ان روایات کے متعلق دریافت کیا تو اس نے ان سب کا انکار کر دیا۔

الفلاس علیہ الرحمہ:..... **فیہ ضعیف** اس میں ضعف ہے۔

یزید بن ہارون علیہ الرحمہ:..... **مازلنا العرفۃ بالکذب** ہم ہمیشہ اسے کذاب ہی جانتے ہیں۔

ابن معین:..... **لیس بشی**۔ وہ کچھ بھی نہیں۔

نسائی:..... **متروک الحدیث**۔ اس کی حدیث ترک کر دی گئی۔

امام بخاری:..... **لیس بالقوی** قوی نہیں۔ (میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۹۴)

حافظ ابن حجر عسقلانی:..... **صدورق نحطی ویصروری بالتیشع** (تقریب، ص ۳۷۲)

حضرت امیر معاویہ ؓ کی ذات پاک پر حضرت علی ؓ کو سب و شتم کرنے کا جو الزام عائد کیا جاتا تھا وہ محض ایک



افتراء سقیم، بہتان عظیم اور افک مبین ہے جس کی کوئی اصل و اساس نہیں ہے یہ ایک افسانہ ہے جسے حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ ؓ کا دامن پاک ہے۔

## سوال نمبر ۶

امیر معاویہ کے زمانے میں بدعات ظاہر ہوئیں چنانچہ شرح وقایہ میں ہے کہ قسم کا مدعی پر رد کرنا بدعت ہے اور سب سے پہلے اس کے مطابق فیصلہ حضرت امیر معاویہ ؓ نے کیا اور سیوطی کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ختی لوگوں کو خادم بنایا اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا۔

## جواب نمبر ۱

وہ حضرت ابن عباس ؓ کی شہادت کے مطابق مجتہد تھے اور خطاء و صواب کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اہل بیت سے حسن سلوک کی وصیت کی تھی مگر اس نے پوری نہیں کی اور اگر حضرت حسن بن علی (ؓ) حیات ہوتے تو معاہدے کے مطابق خلافت ان کے سپرد کر دیتے جیسا کہ صلح نامہ میں طے ہوا تھا۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”طلوع النیرین فی صلح الامیرین“

## جواب نمبر ۲

حضور نبی پاک ﷺ کا ہر صحابی مستقل مجتہد ہے ان کے اجتہادی مسائل کو بدعت نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی ان کی مذمت کی جائے گی، ہاں اجتہاد منیٰ برخطا ہے تو اس پر عمل نہ ہوگا۔ مذکورہ بالا اعتراض اگر صحیح مان لیا جائے تو حضور ﷺ کا کوئی صحابی بھی اس اعتراض سے نہ بچ سکے گا۔ حالانکہ اہلسنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور ﷺ کا ہر صحابی عادل ہے۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں ”والصحابۃ کلہم عدول فلا یضر الجہل باسما نھم“ (شرح نخبة الفکر، ص ۱۵۳)

صحابہ تمام عادل ہیں ان میں سے کسی کے نام کا نہ ہونا نقصان نہیں دیتا۔

مولوی ظفر علی عثمانی دیوبندی نے لکھا ہے کہ ”جہالة الصحابی لاتضر صحة الحديث فانهم کلہم عدول“

(قواعد علوم الحدیث، ص ۱۲۴)

صحابی کے نام کا نہ جاننا صحیح حدیث کے لئے نقصان دہ نہیں کیونکہ وہ تمام عادل ہیں اور مولوی خلیل احمد سہارنپوری

دیوبندی نے نقل کیا ہے ”قلت قد اجمعت الامة ان الصحابة کلہم عدول فلا یضر الجہل باعیا نھم“

(بذل الجمہور، ص ۱/۲۲۲)



میں کہتا ہوں کہ تمام امت کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں تو ان کے نام کی جہالت مضر نہیں۔ یہی قاعدہ مندرجہ ذیل علماء اور محدثین نے بھی تحریر فرمایا ہے امام سیوطی، تدریب الراوی، ص ۲/۲۱۴۔ امام سخاوی، فتح الغیث، ص ۳/۱۰۸۔ امام احمدی، الاحکام، ص ۲/۱۲۸۔ امام اثرم عن الامام احمد تدریب الراوی، ص ۱/۱۹۷۔ امام بخاری عن الحمیدی، تدریب، ص ۱/۱۹۷۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ص ۱/۳۰۰۔ علامہ قسطلانی، ارشاد الساری، ص ۳/۳۱۳۔ نواب صدیق الحسن بھوپالی، المحصول الماحول، ص ۲۳۔ امام بابی مالکی، الاحکام فی فصول الاحکام، ص ۳۰۳۔ ابن تیمیہ مسودہ، ص ۳۶۳، امام غزالی علامہ المستصفی، ص ۱/۱۶۴۔ علامہ تاج الدین سبکی، جمع الجوامع، ص ۲/۱۶۷۔ علامہ امیر بادشاہ حنفی و امام ابن الھمام، تیسرا تحریر، ص ۳/۶۴۔

## نوٹ

روایت حدیث ایک اہم معاملہ ہے اس میں بھی علماء نے ہر صحابی کی روایت قبول کی ہے خواہ معلوم الاسم ہو یا مجهول الاسم، کیونکہ ہر صحابی ﷺ عادل وثقہ ہے۔

## سوال نمبر ۷

امیر معاویہ نے حضرت حسن ﷺ کو زہر دلایا تھا۔

## جواب نمبر ۱

یہ بہتان عظیم ہے اور مؤرخین کی خرافات ہیں جن پر رتی بھر بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ دور سابق میں تاریخ یوں مرتب ہوتی جیسے دور حاضرہ میں اخبارات بلکہ ان سے تاریخ کا زبوں تر حال تھا کیونکہ ہر دور خلافت میں اپنی باتیں لکھوائی گئیں طرفہ یہ کہ بناوٹی راوی بھی بیان کر دیئے گئے۔

## جواب نمبر ۲

زہر خورانی کے متعلق حدیث شریف کی کسی معتبر کتاب میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کا ذکر تو کیا اشارہ تک نہیں ملتا۔ صحیح بخاری میں نہ مسلم شریف میں نہ سنن ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موطاء امام مالک میں اور موطاء امام محمد میں نہ مسند امام اعظم اور نہ ہی مسند امام احمد میں داری، بیہقی اور دارقطنی اور طبرانی میں نہ مستدرک حاکم اور ابن عساکر میں، ہمارا چیلنج ہے کہ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں اس لغو روایت اور بے بنیاد الزام و افتراء کا نام و نشان ہی نہیں ملتا۔ حدیث کے دفتر بے پایاں میں صحیح اور حسن تو بجائے خود کوئی ضعیف روایت بھی ایسی موجود نہیں جس میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کے متعلق اس



بہتانِ شدید اور **افلک مبین** کا اشارہ تک ہو حدیث کا دل آویز و روح آفرین حسین چہرہ اس قسم کے بدنما داغ اور دھبے سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اس الزام کی لغویت کے لئے اتنی حقیقت کافی ہے کہ کسی طبقہ کے کسی محدث نے بھی اس روایت پر اعتماد کر کے اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں جگہ دے۔ اس حقیقت کے بعد کسی اور بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم اتمامِ حجت کے طور پر ہم مزید عرض کرتے ہیں۔

## تاریخ

حدیث کے بعد اب ہم تاریخ کی طرف نظر کرتے ہیں۔ گو تاریخ میں ہر قسم کا مواد موجود ہے عموماً مؤرخین تاریخ و تنقید کی زحمت گوارہ نہیں کرتے وہ رطب و یابس جمع کر دیتے ہیں علامہ ابن جریر جیسا مؤرخ بھی اپنی تاریخ میں صحیح اور غلط ہر قسم کی روایات جمع کر دیتا ہے مگر اس میں بھی اس الزام کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اہلسنت مؤرخین نے اس کو نقل کرنے کے بجائے اس واقعہ کی تردید کی ہے لیکن بحمدہ تعالیٰ اہل تشیع کے مؤرخین بھی اس معاملہ میں ہمارے ساتھ ہیں چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

## تواریخ شیعہ

(۱)..... قدیم شیعہ مؤرخ علامہ احمد بن ابی داؤد دینوری (المتوفی ۲۸۱ھ) نے اپنی مشہور کتاب اخبار الطوال میں حضرت حسن ؑ کی وفات کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں مگر نہ صرف اس افسانہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو سرے سے زہر دینے کے واقعہ تک کا انکار کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ ص ۲۳۲، ۲۳۵ ”ثم ان الحسن اشتكى بالمدينة فثقل“ پھر حضرت حسن ؑ مدینہ طیبہ میں بیمار ہوئے اور بیماری بڑھ گئی۔

## فائدہ

بیمار ہونا اور بیماری کا بڑھ جانا اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زہر دیا تک نہیں گیا یہ شیعہ مؤرخ سرے سے زہر دینے دلانے کا قائل تک نظر نہیں آتا ورنہ ان الحسن اشتكى کی بجائے سم الحسن کا ذکر کرتا۔

(۲)..... دوسرا مشہور اور مستند شیعہ مؤرخ یعقوبی ہے وہ اپنی تاریخ میں حضرت حسن کی وفات کا ذکر کرتا ہے اس میں زہر کا ذکر ہے لیکن حضرت امیر معاویہ ؓ بجائے خود تو کسی بھی زہر دینے والے کا نام تک نہیں۔ حضرت حسن نے حضرت حسین ؑ سے فرمایا یا اخی ان هذه اخر ثلث مرارٍ سقيت فيها السم ولم اسقه مثل موتی هذا۔ (ص ۲/۲۶۶)

برادر عزیز! میں نے تین مرتبہ زہر پیا ہے جس میں سے یہ آخری دفعہ ہے اور میں نے اس دفعہ کی طرح کبھی نہیں پیا۔



(علی بن الحسین المسعودی) المتوفی ۲۴۶ھ

(۳).....علی بن الحسین المسعودی (المتوفی ۲۴۶ھ) شیعہ مذہب کے شیوخ و کبار میں سے ایک ہیں۔

علی بن الحسین المسعودی یعدہ الشیعة من شیوخہم و کبارہم۔ (العورصم، ص ۲۴۹)

مسعودی کو شیعہ اپنے شیوخ و کبار میں شمار کرتے ہیں۔

وہ مؤرخین میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔

## ازالۃ وہم

”مروج الذهب“ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اس میں حضرت حسن ؑ کی وفات کے سلسلہ میں زہر دینے کا واقعہ مذکور ہے۔ اور اس سلسلہ میں حضرت امیر معاویہ ؓ کا ذکر بھی آیا ہے مگر جس افسانوی انداز میں آیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ حضرت بن الحسین ؑ (زین العابدین) کہتے ہیں کہ جب میرے چچا حضرت حسن ؑ کو زہر پلایا گیا حضرت حسین ؑ ان کے پاس گئے تو حضرت حسن ؑ قضائے حاجت کے لئے گئے ہوئے تھے جب لوٹ کر آئے تو فرمایا مجھے کئی دفعہ زہر پلایا گیا ہے لیکن ایسا میں نے کبھی نہیں پایا (اس دفعہ تو) میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں انہیں اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ حضرت حسین ؑ نے دریافت فرمایا برادرِ بزرگ آپ کو زہر کس نے پلایا ہے؟ فرمایا، اس سے آپ کا کیا مقصد ہے اگر وہی ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تو اللہ اسے کافی ہے اور اگر وہ کوئی اور ہے تو یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ پکڑا جائے اس کے بعد آپ تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہے تین دن کے بعد وفات پا گئے۔

## فائدہ

جب امام حسین ؑ کو ہی علم نہیں تو ان لوگوں کو کہاں سے علم ہو گیا۔

## سوال نمبر ۸

و ذکر ان امرتہ جعد بنت الاشعث ابن قیس الکندی سقة السم وقد کان معاویۃ درالیہا۔

(مروج الذهب، ص ۳۸۰/۳۸۱)

اور ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی نے آپ کو زہر پلایا تھا اور معاویہ ؓ نے اسے اس کا اشارہ کیا تھا۔



مسعودی جیسے متعصب مؤرخ کو بھی کوئی مستند روایت اس افسانہ کے متعلق نہ مل سکی اس نے بھی حضرت امام زین العابدین ؑ سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ ؓ کا تو کیا کسی زہر دینے والے کا بھی نام موجود نہیں ہے۔ البتہ جو ٹکڑا اس غالی مؤرخ نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ اس میں جعدہ بنت اشعث کے بار اشارہ حضرت امیر معاویہ کے زہر دینے کا ذکر ضرور ہے۔ مگر وہ بھی **ذکر** کے لفظ سے اس غالی اور متعصب مؤرخ کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کسی مضبوط اور محکم انداز میں یہ **”افسانہ طرازی“** کرتا اس نے اپنے جذبات کی تسکین کے لئے حضرت امیر معاویہ ؓ پر تہمت تراشی کی کوشش تو ضرور کی مگر **ذکر** کے لفظ سے جو اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ یہ الزام نہایت بودا ہے۔

## دعوت غور و فکر

روایت کے اعتبار سے بحث مکمل ہو گئی اب عقل سے کام لے کر اس افسانہ پر غور کیجئے۔

- (۱) جگر کے ٹکڑوں کا معدہ میں داخل ہو کر قضائے حاجت کے وقت خارج ہونا اگر تسلیم کر لیا جائے تو سیدنا حضرت حسن ؑ ایسے نظیف الطبع انسان کا ان ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا بھی تسلیم کر لیا جائے گا تو بظاہر یہ بات بہت ہی بعید ہے۔
- (۲) حضرت حسین ؑ کے دریافت کرنے پر سیدنا حضرت حسن ؑ کو زہر دینے والے کا نام بتانے سے صاف انکار کر دینا مگر یار لوگوں کو اس کا پتہ چل جانا اک تماشہ ہے۔ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔
- (۳) حضرت حسن ؑ کے اس بیان سے یہ حقیقت بھی مبرہن اور بے نقاب ہو گئی کہ خود حضرت حسن ؑ کو بھی زہر دینے والے کا کوئی قطعی علم و یقین نہیں صرف وہم و گمان ہے ظن و تخمین ہے جیسا کہ **اُظنُّہ** کے لفظ سے ظاہر ہے اور یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظن اور گمان پر شرعاً کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔
- (۴) اگر سیدنا حسن ؑ کے ارشاد پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زہر دینے دلانے میں حضرت امیر معاویہ ؓ کا قطعاً کوئی دخل نہیں، اگر زہر دیا گیا اور دلایا گیا تو اور کوئی زہر دینے دلانے والا ہو سکتا ہے۔ مگر حضرت امیر معاویہ ؓ نہیں ہو سکتے کیونکہ حضرت حسن ؑ اپنے بھائی کے استفسار پر فرما رہے ہیں کہ **”فان کان الذی اظنہ فاللہ حسیب وان کان غیرہ فما احب ان یوخذ بی بری“** اگر وہی ہے جس کے متعلق میرا گمان ہے تو اللہ اسے کافی ہے اور اگر وہ کوئی اور ہے تو میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔

اس ارشاد سے واضح ہے کہ جس شخص کے متعلق حضرت حسن ؑ کا گمان ہے وہ اور چاہے جو ہو حضرت امیر معاویہ ؓ



نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اخذ و مواخذہ کا سوال ان کے متعلق پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ملک کے حاکم اعلیٰ اور خلیفہ ہیں، مسند اقتدار پر متمکن ہیں انہیں یا ان کے کسی کام پر مقرر کردہ شخص کو کون پکڑ سکتا ہے؟ حضرت حسن ؑ کے بیان سے یہ حقیقت کھل گئی کہ ان کے گمان میں (نہ کہ صحیح علم میں) جو شخص زہر دینے والا تھا وہ کوئی معمولی آدمی تھا جسے پکڑا اور قانون کے شکنجے میں جکڑا جاسکتا تھا۔ جی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے بہر حال اس افسانوی روایت کا عقلی حیثیت سے جب تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ

(۱) خود حضرت حسن ؑ کو زہر دینے والے کا کوئی علم نہیں ہے یقینی طور پر کسی کا نام نہیں لیتے۔

(۲) کسی کے متعلق ان کا صرف گمان ہے مگر نام بتانے سے آپ نے قطعی طور پر انکار فرمادیا۔

(۳) اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے زہر دینے والے کا پتہ چل سکے۔ گویا حضرت حسن ؑ کی وفات کے ساتھ اس ظن و گمان کا بھی خاتمہ ہو گیا جو کسی کے متعلق ہو سکتا تھا اب کسی کے متعلق علم اور یقین تو کجا وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر تعصب اور بغض و عداوت (عن الصحابہ) کا مظاہرہ ملاحظہ ہو کر ”مروج الذهب“ کا شہرہ آفاق مؤلف جعدہ بنت الاشعث کو زہر دینے کا مرتکب ٹھہراتا ہے مگر ذکر کے لفظ سے اور حضرت امیر معاویہ ؓ پر زہر دلوانا الزام تراشی اور بہتان ہے جسے شیعہ مؤرخین نے بھی تسلیم نہیں کیا اب سنی مؤرخین کے حوالے ملاحظہ ہوں۔

## طبقات ابن سعد

محمد ابن سعد (المتوفی ۲۳۰ھ) مشہور محدث ہیں۔ شبلی نعمانی نے ”سیرۃ النبی حصہ اول“ مقدمہ میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے حالات میں ایسی جامع اور مفصل کتاب لکھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ ”اصح السیر“ ص ۱۴ میں ہے، ”واقدي متروک ہیں مگر ان کے ایک شاگرد محمد بن سعد علیہ الرحمہ ہیں ان کی مشہور اور بہت مقبول کتاب ”طبقات ابن سعد“ ہے، صحابہ کے حالات میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔

اس قدیم ترین اور مستند ترین کتاب میں ابن سعد ؓ نے بھی اس سلسلہ میں ایک روایت لکھی ہے ملاحظہ ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں

قال ابن سعد اخبرنا اسمعيل بن ابراهيم اخبرنا ابن عوف عن عمير بن اسحاق دخلت انا وصاحب علي فقالت لقد لفظت طائفة من كبدى واني قد سقيت الممرار فلم اسق مثل هذا فاتاه الحسين بن علي ضاله من سقاك؟ فابي ان يخبره رحمة الله تعالى۔



یعنی ابن سعد نے کہا کہ ہمیں اسمعیل بن ابراہیم نے خبر دی انہیں ابن عوف نے بتلایا کہ عمیر بن اسحاق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک دوست حضرت حسن ؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے، گر چکے ہیں اور میں نے کئی دفعہ زہر پیا ہے لیکن اس دفعہ جیسا زہر میں نے کبھی نہیں پیا۔ اس کے بعد حضرت حسین ؑ ان کے پاس آئے اور پوچھا آپ کو زہر کس نے پلایا؟ پس آپ نے انہیں بتانے سے صاف انکار کر دیا (رحمہ اللہ تعالیٰ)۔

## استیعاب

اصحاب رسول کے حالات میں علامہ ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ (المتوفی ۴۶۳ھ) کی تالیف استیعاب مستند ترین کتاب ہے اس میں بھی اس واقعہ سے متعلق انہی عمیر بن اسحاق سے بالاسناد ایک روایت ہے۔

قال كنعان عند الحسن بن علي فدخل المخرج شعر فخرج فقال لقد سقيت السم مرء او ما سقيت مثل هذا المرة ولقد لفظت طائفة من كبدي فرأيتني اقبلها بعود معي فقال له الحسين اى اخى من سقاك؟ قال وما تريد اليه اتريد ان تقتله قال نعم، قال فان كان الذى اظن فאלله اشد نقمته ولئن كان غيره فما احب ان يقتل بى برى۔

یہ روایت اور ابن سعد کی روایت ایک ہی ہے مگر دونوں میں فرق ہے۔ (۱) ابن سعد کی روایت میں عمیر بن اسحاق وغیرہ کے سامنے حضرت حسن ؑ کے بیت الخلاء جانے کا ذکر نہیں ہے، مگر استیعاب کی روایت میں ہے۔ (۲) لکڑی کے ساتھ جگر کے ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کرنے کا حکم بھی ابن سعد کی روایت میں نہیں ہے۔ (۳) حضرت حسین ؑ کے سوال کرنے پر ابن سعد کی روایت میں **فابی** کا لفظ ہے اور استیعاب کی روایت میں ہے کہ فرمایا ”اور آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں۔“

حضرت حسین ؑ نے کہا، ہاں۔ فرمایا ”اگر وہی ہے جس کے متعلق میرا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے اور اگر میرا گمان غلط ہے تو کوئی اور ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ قتل کیا جائے۔“ ذکر حسین میں استیعاب میں ابن ابی خثیمہ وغیرہ سے ایک اور روایت نقل کی گئی ہے۔

وذكر ابو زيد عمر بن شبه وابو بكر بن ابي خثيمه قال موسى بن اسمعيل قال ابو هلال عن قتادة قال دخل الحسين على الحسن رحمة الله تعالى فقال يا اخى انى سقيت السم ثلاث مرء لم اسق مثل هذا المرة انى لاضرع كبدي فقال الحسين من سقاك يا اخى؟ قال ما سواك عن هذا اتريد عن تقاتلهم؟



اٰكلهم الى الله۔

اس میں اور پہلی روایت میں فرق ہے، خاص طور پر روایت کے آخری حصہ میں! پہلی روایت میں تھا **اتريد ان تقتله** (کیا تو چاہتا ہے کہ اسے قتل کر دے) اور اس روایت میں ہے **اتريد ان تقتلهم** (کیا تو چاہتا ہے کہ اس سے لڑے) پھر پہلی روایت میں حضرت حسن ؓ کے شبہ اور گمان کا ذکر ہے۔ اور اس میں ہے **اٰكلهم الى الله** یعنی، میں انہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

## نتیجہ

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ واقعہ ایک ہے مگر اس کے متعلق تینوں روایات میں اختلاف واضطراب ہے۔ کوئی ایک روایت بھی تو دوسری سے نہیں ملتی، ہر روایت دوسری روایت سے مختلف ہے۔ کیا اس اختلاف واضطراب کے بعد بھی ان روایات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے بالخصوص ان کے راوی بھی قابل اعتماد نہیں۔

## سوال نمبر ۹

علامہ تفتازانی نے شرح تلخیص میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ؓ بیمار تھے حضرت حسن بن علی ؓ ان کی عیادت (طبع پُرسی) کے لئے تشریف لائے بیٹھے تو آپ کے سامنے امیر معاویہ ؓ نے یہ اشعار پڑھے۔

(۱)..... بدخواہوں کے سامنے میرا اظہار بہادری اس لئے ہے کہ میں زمانہ کے حوادث کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں۔

(۲)..... جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے تو تم تعویذ کو کارگر نہ پاؤ گے۔

## جواب نمبر ۱

یہ روایت صحیح نہیں اگر ہو تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت حسن ؓ ہیں۔ بلکہ قرائن بتاتے ہیں اس سے حضرت امیر معاویہ ؓ کے حاسدین مراد ہیں۔ اور امیر معاویہ ؓ نے امام حسن ؓ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر یہ اشعار سنائے، اس لئے امام حسن ؓ تو ان سے صلح کر چکے تھے۔

## جواب نمبر ۲

بدگمانی سے کام لینا گناہ ہے۔ اللہ ﷻ نے فرمایا ”**إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ**“ (پارہ ۲۶، سورۃ الحجرات، آیت ۱۲)

بے شک بعض گمان سے کام لینا گناہ ہے اور یہ بدگمانی درایۂ بھی غلط ہے اس لئے کہ سیدنا حسن بن علی ؓ سے سیدنا امیر معاویہ ؓ کو بغض و عداوت تھی تو پھر طبع پُرسی کے لئے کیوں آئے نیز ممکن ہے کہ یہ اشعار خوارج وغیرہ کے لئے پڑھے



ہوں۔ جب کہ خوارج حضرت امام حسن ؑ کے بھی دشمن تھے تو امیر معاویہ ؓ نے حضرت امام حسن ؑ کو خوش کرتے ہوئے کہا ہو کہ میں آپ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔

## سوال نمبر ۱۰

حضرت امیر معاویہ ؓ حضرت حسن ؑ کے وصال پر خوش ہوئے چنانچہ تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ وفات حضرت حسن ؑ کے دن حضرت ابن عباس، حضرت امیر معاویہ ؓ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اہل بیت میں ایک بڑا سانحہ ہوا ہے ابن عباس نے فرمایا مجھے علم نہیں لیکن میں آپ کو اس سے خوش دیکھتا ہوں۔

## جواب

مورخین حاطب اللیل ہیں (رطب و یابس جمع کرتے ہیں ان کا کوئی) اعتبار نہیں اگر روایت مذکورہ تسلیم کر لیں تو ان کا خوش ہونا ممکن ہے کسی اور وجہ سے ہو۔

پہلے بھی بار بار عرض کیا گیا ہے کہ مورخین کی باتیں ایسی ہی ہیں جیسے آج کل کے اخبارات کے بیانات، علاوہ ازیں بدگمانی سے بھی مسائل ثابت نہیں ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ ؓ کی خوشی کو دلیل بنانا جہالت ہے اس لئے انسان کے اندرونی حالات وہ خود جانتا ہے تو ممکن ہے ان کی خوشی کسی ذاتی معاملہ سے ہو جو اس وقت ان کے ذہن میں آیا ہو۔

## سوال نمبر ۱۱

حضرت عمار ؓ کے لئے حضور ؐ کا ارشاد گرامی ہے کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ (رواہ مسلم)

## جواب

اہلسنت کا اجماع ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کی اور امام برحق پر چڑھائی کی لیکن حضرت امیر معاویہ ؓ کی یہ جنگ اجتہادی تھی جو صحابہ کے لئے معاف ہے، حضرت علامہ علی قاری علیہ الرحمہ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ؓ کی حدیث کی یوں تاویل کرتے تھے کہ ہمارا گروہ تو خونِ عثمان ؓ کا مطالبہ کرنے والا ہے (باغی بھی طلب کرنے والا) اگرچہ یہ جواب صحیح نہیں لیکن ہم اصل حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لفظ باغی کیا ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

## لفظ باغی کے جوابات

مخالفین لفظ باغی سے دھوکہ کھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، یہ قاعدہ مُسلم ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ ؓ نے سیدنا امیر معاویہ



ؐ کو حقیقی باغی نہیں مانا بلکہ آپ نے انہیں بحیثیت مجتہد کے اپنا بالمقابل مانا ہے اگر انہیں حقیقی باغی سمجھتے تو ان سے کبھی صلح نہ کرتے اور ان دونوں بزرگوں نے آخر میں صلح کر لی۔ (بنایہ نہایہ) اور صلح کے علاوہ سیدنا علی المرتضیٰؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ جیسے پہلے فقیر نے چند روایات نقل کی ہیں۔ اگر امیر معاویہؓ حقیقی باغی ہوتے تو سیدنا علی المرتضیٰؑ ان کی تعریف نہ کرتے اور نہ ہی فضائل بیان کرتے۔

سیدنا حسنؓ کی صلح بلکہ مستقل خلیفہ مان کر ان کی بیعت کرنا تو شیعہ کو بھی مُسلم ہے۔ اگر واقعی حضرت امیر معاویہؓ حقیقی باغی ہوتے تو سیدنا حسنؓ ہر گز ان کی بیعت نہ کرتے اور سیدنا امام حسینؓ و دیگر صحابہ کرام و اہلبیت (رضی اللہ عنہم) بھی شامل تھے اگر حضرت امیر معاویہؓ حقیقی باغی ہوتے تو سیدنا حسینؓ نے جیسے یزید خبیث کی بیعت سے کھلم کھلا نہ صرف انکار بلکہ خونریز جنگ لڑ کر شہید ہوئے۔ یزید کے دور میں تو اکیلے خود مجتہد تھے یہاں تو دوسرے اکابر اہلبیت کے علاوہ سیدنا حسنؓ بھی ساتھ تھے۔

ثابت ہوا کہ حدیث شریف میں لفظ باغی سے مراد حقیقی باغی نہیں بلکہ لفظ باغی سے اس کا لغوی معنی مراد ہے یعنی مطالبہ کرنے والا اور وہ صحیح ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے سیدنا عثمان غنیؓ کے خون کا مطالبہ کیا اور اس میں ان کی کیا تخصیص ہے اس مطالبہ میں اور بھی اکابر صحابہ اور اُم المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شریک ہیں۔ اور ان کا یہ مطالبہ اجتہادی خطا تھی اور مجتہد اگرچہ خطا کرے تب بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے۔

## سوال نمبر ۱۲

حضرت علیؑ کے دیوان میں قاضی میزی نے گمان کیا ہے کہ ابتر سے مراد حضرت امیر معاویہؓ ہیں اور اس کی تائید میں وہ حدیث ذکر کی جو سورہ کوثر کے نزول کا سبب ہے۔

## جواب نمبر ۱

صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ دیوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف شیعہ کا منسوب کردہ ہے۔

## جواب نمبر ۲

یہ کہاں ضروری ہے کہ شعر کا مطلب کوئی شارح مراد لے وہی حق ہو پھر شارح کی مراد دوسروں پر حجت کہاں۔

## جواب نمبر ۳

خلیفہ وقت بطور تعزیر کسی کو سب و شتم کرے تو جائز ہے لیکن دوسروں کو جائز نہیں۔



## جواب نمبر ۴

اکابر کے مابین جب طعن باللسان (تلوار سے حملہ) ہوا تو پھر طعن باللسان ہوا بھی تو کوئی حرج نہیں یہ وقتی تھا لیکن پھر بھی دوسروں کو جائز نہیں کیونکہ دو بھائی اگر ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں تو دوسروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی انہیں برا بھلا کہیں۔ اس سے کئی اعتراضات کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔

## سوال نمبر ۱۳

زنجیری نے کشاف میں حضرت عبدالرحمن بن حسان ؓ کا یہ قول نقل کیا ۔

”الابلغ معاویہ بن حرب امیر الظالمینا کلامی“

خبردار حضرت امیر معاویہ بن حرب کو یہ میری گفتگو پہنچا دو کہ تو ظالموں کا امیر ہے۔

## جواب نمبر ۱

یہ شعر موضوع من گھڑت ہے۔

## جواب نمبر ۲

زنجیری (معتزلی) غیر معتبر آدمی ہے بہت سی من گھڑت روایات نقل کرنے میں اسے کوئی باک نہیں مثلاً اس نے اپنی تفسیر کشاف میں روایت ذیل نقل کی جو بالکل من گھڑت اور ناقابل اعتبار ہے۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں عبدالرحمن ابن عبد سے روایت کی ہے (وہ کلام طویل ہے) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم نے کعبہ کے سایہ میں بیٹھ کر یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے جو امام پر حملہ کرے اسے قتل کر دو۔ عبدالرحمن نے ان سے کہا کہ یہ تیرے چچا زاد معاویہ ہیں، جو ہمیں ایک دوسرے کا ناحق مال کھانے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عبداللہ کچھ دیر خاموش ہو کر بولے کہ اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت کرو اور معاصی میں ان سے بچو۔

## فائدہ

دراصل اس کا مقصد حضرت امیر معاویہ ؓ کی اس اجتہادی خطا کا اظہار تھا جو کہ حضرت علی ؓ سے جنگ کرنے اور اس پر پیسہ خرچ کرنے کی صورت میں امیر معاویہ ؓ سے خطا ہوئی تھی۔ زنجیری کا معتزلی ہونا اور اس کی تفسیر کا غیر معتبر ہونا سب کو مسلم ہے پھر یہ کہاں کا اصول ہے کہ دلیل میں بد مذہب کا حوالہ پیش کیا جائے۔ بالخصوص اس کی اس کتاب کا جو متفقہ طور پر



## سوال نمبر ۱۴

کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ محدث جلیل ابو عبد الرحمن احمد نسائی سے اہل شام نے سوال کیا کہ ہمیں حضرت امیر معاویہ ؓ کی فضیلت کی کوئی حدیث سنائیے۔ انہوں نے کہا ”**لا اشبع الله بطنه**“ (اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے) کے سوا مجھے اس کے بارے میں کوئی حدیث یاد نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”کیا معاویہ اس پر راضی ہے کہ وہ برابر چھوٹ جائیں۔“ باقی روایات فضیلت ڈھونگ ہیں۔ اس پر اہل شام نے ان کو خوب مارا یہاں تک کہ اسی سے بیمار ہو کر فوت ہوئے۔

## جواب

اہل شام کا مقصد تھا کہ امام نسائی حضرت امیر معاویہ ؓ کی حضرت علی ؓ پر فضیلت کی کوئی حدیث سنائیں۔ امام نسائی اہل شام کے سوء ادب سے ناراض ہوئے یہ بات تو ان کی اچھی تھی، لیکن جب امیر معاویہ ؓ کی امام نسائی نے توہین کی تو اہل شام نے آپ کو مارا اور یہ امام نسائی کی خطا ہے، علاوہ ازیں ہر محدث اپنی شرائط پر روایت احادیث کرتا ہے اور ممکن ہے کہ امام نسائی کے ہاں حضرت امیر معاویہ ؓ کے بارے میں صرف وہی حدیث صحیح ہو اور آپ نے نقل کی ہو تو اس سے آپ کی مراد حضرت امیر معاویہ ؓ کی فضیلت ہو جیسا کہ ہم نے اس روایت سے ان کی فضیلت ثابت کی۔ لیکن اہل شام نے اسے غلط سمجھا، یا پھر انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے کہ اس محدث نے ہمارے کہنے پر حضرت علی ؓ پر حضرت امیر معاویہ ؓ کو فضیلت کیوں نہ دی تو ان کا مارنا اہل شام کی جہالت کی وجہ سے تھا۔ اور جہلاء کے افعال قابل استدلال نہیں ہوتے۔

## تعارف امام نسائی

آپ خراسان کے ایک مشہور شہر نسائی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار ہے جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ پیدائش میں اختلاف ہے لیکن ان کے اپنے قول اور حافظ ابن حجر کے فرمان کے مطابق ۲۱۵ھ بنتی ہے۔ آپ ۲۳۵ھ میں قتیبہ بن سعید کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں سے حضرت قتیبہ بن سعید، حضرت محمد بن بشار، ابو داؤد اور ابن ریحان ابن اشعث کے نام سرفہرست ہیں۔ اور آپ سے روایت کرنے والے ابو القاسم طبرانی، ابو جعفر طحاوی اور حافظ ابو بکر احمد بن اسحاق السنی مشاہیر محدثین میں شمار کئے جاتے ہیں۔ مذہب شافعی اور سنت کی پابندی آپ کا خصوصی امتیاز تھا۔ آپ متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ قاضی و حافظ تھے آپ نے



اتنے لوگوں سے سنا جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کا شمار مسلمانوں کے جلیل القدر اماموں میں ہوتا ہے، آپ ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے، اس کے باوجود کہ چار بیویاں اور متعدد لونڈیاں پاس تھیں۔ گوشت آپ کی پسندیدہ غذا تھی، آپ کے لئے بڑے موٹے موٹے مرغ خرید کئے جاتے تھے۔ چہرے پر ملاحیت اور خون کی سرخی ان کے بدن پر نمایاں تھی اسی وجہ سے، ایک طالب علم نے ان پر نبیذ پینے کا الزام لگایا جب اُن سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نبیذ حرام ہے۔ آپ کے زمانہ میں خراسان، عراق، مصر، حجاز، جزائر وغیرہ میں عرفان و اتقان اور حدیث کے فن میں کوئی مقابل نہیں۔ بعض لوگ ان کو اس لئے بُرا کہتے ہیں کہ انہوں نے ”**کتاب الاختصاص**“ میں فضائل حضرت علی ؓ لکھے دیگر صحابہ کی سیرت سے اجتناب کیا جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ دمشق میں لوگ حضرت علی ؓ سے منحرف تھے اس لئے ان کی ہدایت کے لئے یہ کتاب تحریر کی۔ ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ حارث سے کسی وجہ سے رنج ہو گیا تھا اعلانیہ اس کی مجلس میں نہیں جاسکتے تھے، مکان کے کونے میں چھپ کر حدیث سنتے تھے تاکہ حارث ابن سکیں دیکھ نہ سکیں صرف ان کی آواز سنتے تھے اسی وجہ سے اب روایت کرتے وقت **حدثنا یا خبرنا** کا لفظ نہیں بولتے۔ سنن کبریٰ کی تصنیف سے جب فارغ ہوئے تو رملہ کے امیر نے پوچھا کیا یہ سب احادیث صحیح ہیں تو آپ نے جواب دیا نہیں۔ تو پھر امیر کہتا ہے کہ صحیح احادیث جمع کرو، تو ان کے کہنے پر صحیح مختصر میں جس کو مجتنب بھی کہتے ہیں، جمع کیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بخاری و مسلم کے درجہ پر نسائی فائز نہیں لیکن اس کے باوجود حافظ ذہبی کے قول کے مطابق صحاح میں ان کو تیسرا مقام حاصل ہے۔ کتاب کی عظمت و جلالت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے گیارہ سو سال سے کتب صحاح ستہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ متعلم پڑھتے وقت ان کے حسن کلام پر ششدر و حیران رہ جاتا ہے۔ (سب سے پہلے عربی حاشیہ پاک و ہند کے نامور عالم و محدث مولانا وصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ نے لکھا) آپ کتاب الاختصاص تصنیف کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ اس کو دمشق کی جامع مسجد میں سنادیں، چنانچہ خود امام نسائی اس کتاب کو لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں جاتے ہیں۔ بیان شروع کرتے ہیں تھوڑا سا بیان کیا ہی تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو کر بولتا ہے، کہ تم نے حضرت امیر معاویہ ؓ کے متعلق بھی کچھ لکھا ہے۔ اس وقت آپ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا کر خوارج لاتوں سے مارنا شروع کرتے ہیں۔ زد و کوب کیا جاتا ہے، ضربیں بغلیں اور پسلیوں پر لگتی ہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، نیم جان حالت میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے مکہ المکرمہ لے چلو یا راستے میں مرجاؤں گا یا مکہ مکرمہ میں ہی مروں، چنانچہ آپ کو مکہ مکرمہ روانہ کیا جاتا ہے۔ ۱۳ صفر المظفر ۳۰۳ھ یا ۱۳ شعبان کو رملہ جو ملک فلسطین میں ہے وصال ہو جاتا ہے۔ وہاں سے آپ کا جنازہ مکہ مکرمہ پہنچایا جاتا ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان مدفون ہوئے۔



## سوال نمبر ۱۵

بہت سی احادیث صحیحہ و حسن میں ان لوگوں کے بارے میں شدید وعید آئی ہے جو حضرت علیؑ سے بغض رکھیں یا آپ سے لڑائی لڑیں۔

## جواب نمبر ۱

حضرت علیؑ سے تو ان حضرات نے بھی لڑائی کی جن کے متعلق جنت کی بشارت قطعی ہے مثلاً بی بی عائشہ وطلحہ وزیر (رضی اللہ عنہم اجمعین) اس سے ضروری ہوا کہ احادیث وعید کو غیر صحابہ پر محمول کرنا واجب ہے۔

## جواب نمبر ۲

یہ احادیث وعید ان لوگوں کے لئے ہیں جو متعصب ہوں اور مجتہد نہ ہوں اور غیر صحابہ ہوں جیسے حروریہ (خوارج) لازماً ان وعیدوں کو ان لوگوں پر محمول کیا جائے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جسے سیدنا علیؑ سے بغض و عداوت ہے وہ جہنمی ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ و دیگر اکابر صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے مخالفت کرنا ازراہ بغض و عداوت نہ تھا بلکہ شرعی حیثیت سے ایک حق اور جائز مطالبہ تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے سیدنا علی المرتضیٰؑ سے جائز اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، ان کی موجودگی میں کسی اور سے نکاح نہ کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰؑ نکاح پر مصر ہوئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوئیں۔ بلکہ بقول ملا باقر علی مجلسی دو صاحبزادوں کو لے کر حضورؐ کے گھر چلی گئیں۔ (جلاء العیون)

## سوال نمبر ۱۶

حدیث شریف ”خلافت تیس سال ہوگی (پھر ملوکیت) بھی۔“ حضرت امیر معاویہؓ کے لئے موجب اعتراض ہے چنانچہ، حضرت سفینہ مولیٰ رسول اللہؐ سے مرفوعاً مروی ہے کہ خلافت تیس سال ہوگی۔ پھر سلطنت ہوگی۔ حضرت سفینہ فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت دو سال، حضرت عمرؓ کی دس سال، حضرت عثمان غنیؓ کی بارہ سال اور حضرت علیؓ کی چھ سال گن لو یہ پورے تیس سال ہوئے۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و التیاسی)

## فائدہ

احمد و ترمذی و ابویعلیٰ و ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ، خلافت میرے بعد میری امت میں تیس سال ہوگی اس کے بعد سلطنت (حکومت) ہوگی۔

امام بخاری نے تاریخ میں اور حاکم ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ خلافت مدینہ میں ہوگی اور سلطنت شام میں۔



تیس سال کے بعد ”خلافت علیٰ منہاج النبوة“ کی نفی مراد ہے اس لئے کہ بارہ خلفاء کی حدیث صحیح ہے۔ یعنی تیس سال وہ خلافت کاملہ رہے گی جس میں سنت کی مخالفت کا شائبہ تک نہ ہوگا اور وہ بلا تخلل و انقطاع جاری رہے گی پھر خلل کا وقوع شروع ہو جائے گا۔

ہمیں اعتراف ہے کہ حضرت امیر معاویہ ؓ عالم و متقی عادل تھے لیکن خلفاء اربعہ کے علم و ورع و عدل سے کم۔ یہ ایسے ہیں جیسے اولیاء کرام کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے بلکہ ملائکہ کرام میں بھی یہ تفاوت موجود ہے۔ اور انبیاء کرام کے درجات کا تفاوت تو نص قطعی سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ ؓ کی امارت اجماع صحابہ اور بعد تسلیم امام حسن ؓ سے اگرچہ صحیح اور درست ہے لیکن ان خلفاء سابقہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ پر نہ تھی کیونکہ حضرت امیر معاویہ ؓ نے ان مباحات کو وسعت دی جن سے خلفاء سابقہ کو احتراز تھا لیکن ہم تو یوں عقیدہ رکھیں ”حسنات الابرار سیات المقربین“ اور ممکن ہے ان کا مباحات کا توسیع ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی وجہ سے ہوا اگرچہ وہ چیز ان میں نہ تھی جیسا کہ گذرا اور خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کا عبادات و معاملات میں رجحان ظاہر ہے۔

## سوال نمبر ۱۷

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ؓ حضور سرور عالم ﷺ کے کاتب ضرور تھے لیکن کاتب وحی نہ تھے؟

## جواب نمبر ۱

حضور سرور عالم ﷺ کی معمولی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ذی قدر و اعلیٰ منزلت کی حامل ہے، جیسا کہ سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات سے ظاہر ہے اور آپ کا کاتب ہونا تو عظیم عہدہ ہے، حکومت کے صدر یا وزیر اعظم کا پرائیویٹ سیکرٹری کی کتنی اونچی شان سمجھی جاتی ہے اور حضرت امیر معاویہ ؓ تو شہنشاہ کونین ﷺ کے کاتب ہیں کوئی ان کی عزت و احترام سے دل کو محروم رکھتا ہے تو اس جیسا محروم القسمۃ کون ہوگا۔

## جواب نمبر ۲

بعض محدثین کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ ؓ نہ صرف کاتب تھے بلکہ کاتب الوحی بھی تھے۔ چنانچہ امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ الرحمہ نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے:

”معاویہ بن ابی سفیان صخر و لد حرب کاتب الوحی لرسول اللہ ﷺ۔“



اس کے علاوہ مزید حوالے فقیر کی تصنیف ”فضائل معاویہ“ میں پڑھئے۔

### جواب نمبر ۳

کوئی کاتب الوحی نہیں مانتا، لیکن اسے مطلق کاتب الرسول (ﷺ) سے انکار نہیں ہو سکتا اور یہ عہدہ بھی عزت و وقار کے اعتبار سے کوئی معمولی عہدہ نہیں۔ کسی مملکت کے سربراہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کو دیکھ لیجئے کہ اسے عوام و خواص کتنا عزت و احترام سے دیکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ ؓ شہ کونین ؓ کے پرائیویٹ سیکرٹری (کاتب خاص) ہیں انہیں گالی دینا ان سے بغض و عداوت اور دشمنی کرنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر وہ خود کو جہنم کے داخلے کے لئے تیار رکھے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم الامین و علی آلہ واصحابہ اجمعین

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

۲۶ ربیع الآخر ۱۴۲۳ھ

بروز جمعہ المبارک، قبل اذان الجمعہ

بہاول پور۔ پاکستان

☆☆☆☆☆